

اللهُ وَحْدَهُ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَّامَ بَوْيَى

كَا

قَرْنَى وَشَهَى كِلَنْدَرَ



۱۲۶۹۷

# عہدِ نبی کا قمری و شمسی کیاندھ

از ۲۰ اپریل ۱۳۵۸ء تا ۲۶ مئی ۱۳۵۸ء

مطابق

۹ ربیع الاول عام اقبل تایکم ربیع الاول اللہ



(دوست محمد شاحد مؤرخ احمدیت)

احمد آکیدی راوہ

## مقدمة

کائنات عالم کا اہم ترین واقعہ ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد بھتی صلی اللہ وآلہ وسلم کا تکمیل ہے۔

آنحضرت علی پادشاہ ہر دو جہاں ہیں اور آپ ہی کے طفیل مش و قرقے انوار و تجلیات کی جلوہ گری ہے جیسا کہ حضرت پانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں۔

آن شہ عالم کہ ہاشم مصطفیٰ سید عشاق حق مش اعلیٰ  
آن کہ ہر نورے طفیل نور اوست آں کہ منظور خدا منظور اوست

(برائین احمدیہ حصہ چارم ص ۵۲۵ حاشیہ طبع اول ۱۸۸۳)

اس زاویہ لگاہ سے دنیا بھر کے ملکوں اور دانشوروں کو بلا خریہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاریخ کا حقیقی اور اقلابی صور آنحضرت کے وجود مقدس ہی سے ہوتا ہے۔ اگر حضور کی بعثت نہ ہوتی تو علم تاریخ مخفی ہے سروپا قصوں، دیوالائی کمانوں اور افسانوں کا لٹسم کدھہ بن کر رہ جاتا۔ آپ ہی نے علم تاریخ کی ضرورت و اہمیت بتائی، اس کے رہنماؤں اور شری اصول وضع فرمائے۔ اس سے فائدہ اٹھانے اور عبرت حاصل کرنے کے بغایدی اسالیب بتائے اور سلیمانیہ سکھلانے۔ جماں محدودے چند کے سواباتی سب انبیاء کے حالات مرور زمان کے باعث یہی شے کے لئے دینپر دوں میں دفن ہو چکے اور اکثر کے نام تک صفوٰ ہستی سے یکسر جموہ ہو گئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نداہ نفسی) کی تریشم (۴۳) سالہ مقدس زندگی کے واقعات حیرت انگیز تفصیلات کے ساتھ تحفظ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان واقعات کو سن و ماہ کے عالی شان محل میں سجائے کے لئے یکاکی غیب سے ایک عجیب سلامان فرمایا۔

ع مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

چنانچہ ابوالنداء حافظ ابن کثیر الدمشقی "البدایۃ والغایۃ" میں تحریر فرماتے ہیں کہ  
۶۷ھ میں حضرت عمر کے سامنے ایک پیک چیز ہوا جس پر صرف شعبان کا لفظ درج تھا۔ آپ نے  
دریافت فرمایا کون سا شعبان؟ اس سال کا یا سال گزشتہ کا شعبان؟ اس پر آپ نے ایک مجلس شوریٰ

منعقد فرمائی اور حضرت علیؑ اور دیگر اکابر صحابہ کے مذوہ سے سن جھری کی بنیاد رکھی۔  
 ("البدایت و التہایت" جلد ۷ ص ۲۰۱۶ء کتبہ الشیرازیاں، کتبہ العارف بیروت ایضاً طبری مولف  
 ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جلد نمبر ۳ ص ۱۸۸ مطبوعہ مصر ۱۹۶۶ء)

یہ واقعہ واقعی کی تحقیق کے مطابق بھرپت نبوی کے سوالوں سال ربيع الاول (بمطابق اپریل ۷۳۶ء) کے مسینہ میں وقوع پذیر ہوا۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر اہمی پورے پانچ سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ خلافت راشدہ کی برکت سے تمام ممالک اسلامیہ میں تقویم جھری جا ری ہو گیا۔ یہ تقویم قمری میتوں پر مبنی تھا۔ اور تنفیذ کے پہلے ہی سال سے مبنی الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا۔ کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقبوضہ ممالک جن کا کل رقبہ ۵۰۰۰ کلومیٹر میں تھا اس میں ججاز، نجد، شام، مصر، عراق، جزیرہ خوازستان، عراق، گم، اوسمنا، آذربایجان، فارس، کران، خراسان اور کران چیزے ممالک شامل تھے۔ اپنے دور کی اس عظیم ترین حملت پر ہر جگہ اسلامی جنہاً اپوری آباد تاب سے لہرا رہا تھا۔

"الفاروق" حصہ دوم ص ۲-۳ مولفہ مولانا شیخ نہمانی مطبوعہ اعظم گذھ جولائی ۱۸۹۸ء)  
 اس مشور عالم تقویم جھری کے تیباً ساڑھے نو سو سال بعد ۱۵۸۲ء کو موجودہ یوسوی کیلندر معرض وجود میں آیا جو شمسی حساب سے تیار کیا گیا تھا۔ اسی کو گر گورین کیلندر (GREGORIAN CALENDAR) کہا جاتا ہے۔ یہ کیلندر سب سے پہلے اسی سال فرانس نے اور بعد کو دوسرے کیتوں لکھ ممالک نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں رائج کیا۔ ۱۵۷۷ء میں برطانیہ، ۱۵۸۳ء میں روس، ۱۵۹۷ء میں یونان اور ۱۶۰۷ء میں ترکی میں نافذ کیا گیا۔ اور اب یہ دنیا کا مقبول ترین عالمی کیلندر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تسلیل کے لئے ملاحظہ ہو زیر لفظ "CALENDAR"

- 1- COLLIER'S ENCYCLOPEDIA.
- 2- THE NEW CAXTON ENCYCLOPEDIA.
- 3- LEXICON UNIVERSAL ENCYCLOPEDIA.

قرآن نظریہ کی رو سے تاریخ اور حساب کا معاملہ چاند اور سورج دنوں سے وابستہ ہے۔  
 (یونس: ۲۰) امت مسلم اب تک تقویم کے باب میں صرف چاند سے استفادہ کرتی آرہی تھی لیکن گر گورین شمسی کیلندر کی عالمگیر مقبولیت اور عملی اثر و نفعوں کے بعد مسلم تحقیقین کی علمی بصیرت

غیر شوری طور پر اس طرف خلخل ہوئی کہ قمری جدوں کو ششی جدوں میں تبدیل کر کے ان دونوں کو متوازی، ہم آہنگ اور باہم موافق بنایا جائے اور پھر یہ کوششیں زور شور سے شروع ہو گئیں۔

اس تاریخی معرکے کے سر کرنے کا اصل سرا مصرا کے نامور محقق اور ماہر فلکیات صاحب الملواء محمد عخار باشا (ولادت 1846ء وفات 1897ء) کے سر ہے۔ جنہوں نے سالماں کی محنت و عق ریزی سے پہلی صدی ہجری سے پدرہویں صدی ہجری تک کے قمری کینڈر کو عیسوی اور قبلی ششی کینڈر میں ڈھال دیا۔ مصری حکومت نے آپکی یہ مکمل تحقیق الله تعالیٰ بسطابن ۱۸۹۳ء میں "التو فیقات الالہامیہ" کے نام سے شائع کروی۔ یہ وہی مبارک سال تھا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت کے میں مطابق ۱۲۱۱ مارچ کو چاند گر، ہن اور ۶ اپریل کو سورج گر، ہن کا آفیقی نشان رونما ہوا۔ یہ معرکہ آرائیتاب ساز سے سات سو صفحات پر مشتمل تھی۔ آپ کا یہ علمی کارنامہ، جب تک چاند اور سورج چکتے رہیں گے آب زر سے لکھا جائے گا۔

اس حقیقت کے باوجود تقویم قمری و ششی کے تافق کی اس جدوں میں زبردست خلاعہ قائم رہا اور وہ یہ کہ تقابلی کینڈر صرف ملنی دور کے دس سالوں پر محیط ہے۔ اور قبل از بھرت ترپن (۵۳)

برس کے بارہ میں بالکل خاموش ہے۔ بلکہ جہاں تک میری معلومات ہیں آج تک پوری دنیاۓ اسلام میں کوئی ایسا قمری و ششی کینڈر نہیں شائع ہوا جو آنحضرت کی مقدس زندگی کے ترتیب میں سالوں پر حاوی ہو۔ علامہ ابوالنصر ایم اے اور مولانا عبد القدوس ہاشمی کی تقویمیں اردو میں شائع شدہ ہیں۔ علاوه ازیں انگریزی میں کرتل سر ولے ہیک (SIR WOLSELEY HAIG) نے حسب ذیل کتاب لکھی ہے۔

#### "COMPARATIVE TABLES OF MUHAMMADAN AND CHRISTIAN DATES"

گران سب تقویموں کا آغاز بھرت نبوی کے سال اول ہی سے ہوتا ہے۔ رب العرش نے احیت کی دوسری صدی کے پہلے سال کے اختتام پر ہمارے موجودہ امام ہمام ایدہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اس تختہ پہلو کی طرف مبنی فرمائی اور خاکسار کو اس کینڈر کی تخلیق کا ارشاد فرمایا۔ اس

سلط میں حضور ایہ اللہ تعالیٰ نے ۱۹۸۹ء کو حسب ذیل مکتب پر قلم فرمایا:

”بخارے گرم مولانا دوست محمد صاحب شاہد

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کی وہی زندگی کے اہم تاریخی واقعات کا کیلینڈر تیار کریں۔ جن کے متعلق ہمیں سین طور پر قمری میہنون کا ذکر ملتا ہو کہ کس میں میں کون سا اہم واقعہ گزرا ہے۔۔۔۔۔ اس واقعاتی کیلینڈر کو شمی میہنون کے ساتھ تلقین دے کر ایک مقالہ تیار کروائیں جس سے ایک نظریں ہی یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا واقعہ کس شمی میہنے میں گزرا ہے۔ اس میں عام تاریخی واقعات کے علاوہ سائل سے متعلق ایسے واقعات بھی شامل ہو جائیں جن کے متعلق قطی طور پر معلوم ہو کہ کس قمری تاریخ یا تاریخیں میں وہ روئنا ہوئے؟  
کلن اللہ معمکم“

( ) یہ نہایت سخت ہے اور نہایت مشکل بلکہ بظاہر ناممکن سا کام تھا جو محض خدا تعالیٰ کے فضل اور ہمارے بخارے امام ہام ایہ اللہ تعالیٰ بنصہ العزیز کی روحاںی توجہ اور دعا سے ۲۰ فروری ۱۹۹۰ کو پایا تھیں تک پہنچا۔ اور حضور کی قبولت دعا کا چکتا ہوا اٹھان بن گیا۔ اس سلسلہ میں آسمانی نصرت مشکل رہی۔ واقعہ یہ ہوا کہ غاسکار کو مصری ماہر تقلیلیات کی تقویم ”التو نیقات الالاماسیہ“ کا گمرا مصالحہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس طرح ۱ ہجری کا آغاز یہی محرم کو ہوتا ہے جب کہ شمی لہاظت سے ۲۷ جولائی کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ اسی طرح تھیک ۵۳ قمری سالوں کے بعد ۵۳۸ ہجری کا کیلینڈر ۱ ہجری کی طرح یہی محرم ۲۷ جولائی جمعہ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح ہجری ۱ سے ۵۳۸ میں تکلیف کا قمری و شمی کیلینڈر جو ایک گشہہ خزانہ تھا خود بخود دریافت ہو گیا۔ فائدہ اللہ علی ڈاکٹر۔ گرجی چونکہ صرف آخرحضرت کی ولادت سے بھرت تک کے واقعات کا کیلینڈر مطلوب تھا۔ اس لئے میں اس کی خلاش میں ۵۳۸ کے کیلینڈر سے ۵۳ میں پہنچے چلا گیا حتیٰ کہ ۵۳۸ کے کیلینڈر تک پہنچا اور یہی آخرحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کا کیلینڈر تھا۔ اس طرح ۵۳ میں کے ”خیریہ“ کیلینڈر کا اکشاف ہوا۔

فائدہ اللہ علی احسان

زیر نظر کیلذر کی پہلی خصوصیات یہ ہیں۔

اول: یہ ایک نہایت آسان اور عام فرم کیلذر ہے جو علامہ صاحب اللواء محمد عمار باشا مرحوم کی سائنسی تحقیق پر مبنی ہے۔

دوم: یہ کیلذر تاریخی ترتیب کے اعتبار سے تین حصوں میں منقسم ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بحث تکمیل۔

۲۔ بحث نبوی سے بحث مدینہ منورہ تکمیل۔

۳۔ بحث نبوی سے وصال خاتم الانبیاء تکمیل۔

ہر سال اس کیلذر کی ابتداء نہاتہ واضح عنوان سے کی گئی ہے۔ یہ بھی اتزام کیا گیا ہے کہ ہفتہ کے ایام کے وہی اردو نام دیے جائیں جو رخصی پاک و ہند کے عوامی حلقوں میں مشہور و معروف ہیں۔

سوم: مجھے اس وقت تک ماہ و سال کے تینیں کے ساتھ جن واقعات کی قمری تواریخ قسم اور مستند اسلامی لزیج سے فراہم ہو سکی ہیں ان کا اجمالی تذکرہ میں نے ہر سال کے کیلذر میں ترتیب دار کر دیا ہے۔ ایسے سیمین واقعات کی تعداد ۱۳۶۷ ہے جس میں مجھے امید ہے کہ اہل تحقیق کے قلم سے مستقبل میں پیشنا مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ انشاء اللہ۔

چہارم: مقالہ میں اجمالی تذکرہ پر عیا اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کے بنیادی مأخذ بھی پروقرطاس کر دیے گئے ہیں۔

بالآخر تمام معزز قارئین کی خدمت میں یہ عاجزانہ درخواست کروں گا کہ وہ ان بزرگ مورخین اسلام اور اکابر حقدین کو یہ شہ اپنی دعاویں میں یاد رکھیں جنہوں نے صدیوں تک میں سور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کی قمری اعتبار سے توثیق کر کے عشقان رسول علیہ کے لئے تحقیق کے میدان کو غیر معمولی طور پر وسیع کر دیا ہے۔ ان کے اس گران بار احسان کے آگے ہماری گرد میں خم ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَبْرَارٍ وَّسَلِّمْ  
إِنَّكَ حَمِيمٌ مَّعْجِيزٌ

# سالہ (ولادت نبی کا سال)

یکم فرموم	جمعرات	۱۵، فروری
یکم صفر	ہفتہ	۱۶، مارچ
یکم ربیع الاول	اتوار	۱۱، اپریل
یکم ربیع الثانی	منگل	۱۲، مریٹ
یکم جمادی اللول	پردھ	۹، جون
یکم جمادی الثانی	جمعہ	۹، جولائی
یکم رجب	ہفتہ	۹، اگست
یکم شعبان	سوموار	۷، ستمبر
یکم رمضان	منگل	۵، انکتوبر
یکم شوال	جمعرات	۲، نومبر
یکم ذی قدرہ	جمیر	۳، دسمبر
یکم ذی الحجه	اتوار	۱۵، جنوری

نوٹ، اگر اس سال کا صفر تیسرا ایام کا قرار دیا جائے تو یکم ربیع الاول کو ۱۵ اپریل اور ۹ ربیع الاول کو ۲۰ اپریل ہی ہوگی۔

## سالہ ۳ (ولادت بنوی کا دوسرا سال)

یکم محرم	منگل	یکم فروری ۱۴۵۵ھ
یکم صفر	جمعہ	۲۳ مارچ "
یکم ربیع الاول	جمعہ	یکم اپریل "
یکم ربیع الثانی	اتوار	یکم مئی "
یکم جمادی الاول	سوموار	۲۰ مئی "
یکم جمادی الثانی	بدھ	۲۹ جون "
یکم ربیع	جمعہ	۲۸ جولائی "
یکم شعبان	ہفتہ	۲۶ اگست "
یکم رمضان	اتوار	۲۵ ستمبر "
یکم شوال	منگل	۲۵ اکتوبر "
یکم ذی قعده	بدھ	۲۳ نومبر "
یکم ذی الحجه	جمعہ	۲۳ دسمبر "

# سے (ولادت نبویؐ کا تیسرا سال)

نیکم محرم	ہفتہ	۶۵۷ جنوری ۲۱
نیکم صفر	سووار	۲۰، فروری ۲۰
نیکم ربیع الاول	منگل	۲۱، مارچ ۲۱
نیکم ربیع الثانی	جمعرات	۲۰، اپریل ۲۰
نیکم جمادی الاول	جمعہ	۱۹، مئی ۱۹
نیکم جمادی الثانی	اتوار	۱۸، جون ۱۸
نیکم ربیع ثالث	سووار	۱۷، جولائی ۱۷
نیکم شعبان	بدھ	۱۶، اگست ۱۶
نیکم رمضان	جمعرات	۱۵، ستمبر ۱۵
نیکم شوال	ہفتہ	۱۴، اکتوبر ۱۴
نیکم ذی قعده	اتوار	۱۳، نومبر ۱۳
نیکم ذی الحجه	منگل	۱۲، دسمبر ۱۲

## سے (ولادتِ نبوی کا چوتھا سال)

نیمِ محرم	جمعرات	۱۱ جنوری ۱۴۷۵ھ
» صفر	ہفتہ	۱۰ جنوری ۰
» ربیع الاول	توار	۱۱ مارچ ۰
» ربیع الثانی	منگل	۱۰ اپریل ۰
» جمادی الاول	پدھ	۹ مئی ۰
» جمادی الثانی	جمعہ	۸ جون ۰
» رجب	ہفتہ	۷ جولائی ۰
» شعبان	سوموار	۶ اگست ۰
» رمضان	منگل	۲۳ ستمبر ۰
» شوال	جمعرات	۲۴ اکتوبر ۰
» ذی قعده	جمعہ	۲۰ نومبر ۰
» ذی الحجه	توار	۲ دسمبر ۰

# شہر

(ولادتِ نبویؐ کا پانچواں سال)

یکم محرم	سوموار	۱۳، سپتامبر ۱۴۵۶ھ
» صفر	پندرہ	۳۰، جنوری ۱۴۵۷ھ
» ربیع الاول	جمعرات	۲۸، فروری ۰
» ربیع الثانی	ہفتہ	۲۹، مارچ ۰
» جمادی الاول	اتوار	۲۸، اپریل ۰
» جمادی الثانی	منگل	۲۰، مئی ۰
» رجب	پدھر	۲۵، جون ۰
» شعبان	جمعہ	۲۵، جولائی ۰
» رمضان	ہفتہ	۲۳، اگست ۰
» شوال	سوموار	۲۶، ستمبر ۰
» ذی قعده	منگل	۲۱، اکتوبر ۰
» ذی الحجه	جمعرات	۲۰، نومبر ۰

# سنه ۶ (ولادت نبوی کا چھٹا سال)

یکم محرم	جمعہ	۱۹ دسمبر ۵۷۴ھ
» صفر	التواء	۱۸ جنوری ۵۷۴ھ
» ربیع الاول	سوموار	۱۷ فروری " "
» ربیع الثانی	بدھ	۱۸ مارچ "
» جمادی الاول	جمعرت	۱۹ اپریل "
» جمادی الثانی	ہفتہ	۲۰ مئی "
» رجب	التواء	۲۱ جون "
» شعبان	منگل	۲۲ جولائی "
» رمضان	بدھ	۲۳ اگست "
» شوال	جمعہ	۱۱ ستمبر "
» ذی قعده	ہفتہ	۱۰ اکتوبر "
» ذی الحجه	سوموار	۹ نومبر "

# کمہ (ولادتِ نبویؐ کا سال توالی سال)

یکم محرم	بدھ	۹ دسمبر ۱۹۵۶ء
یکم صفر	جمعہ	۸ جنوری ۱۹۵۶ء
۰ رجب الاول	ہفتہ	۶ فروری " "
۰ رجب الثانی	سوموار	۸ مارچ "
۰ جمادی الاول	منگل	۶ اپریل "
۰ جمادی الثانی	جمعرات	۶ مئی "
۰ رجب	جمعہ	۲ جون "
۰ شعبان	اتوار	۲ جولائی "
۰ رمضان	سوموار	۲ اگست "
۰ شوال	بدھ	یکم ستمبر "
۰ ذی القعده	جمعرات	۴ ستمبر "
۰ ذی الحجه	ہفتہ	۳۰ اکتوبر "

# شہ

(ولادت نبوی کا آنھوں سال)

یکم محرم	اتوار	۷۸، نومبر ۱۹۶۶ء
» صفر	منگل	۲۸، دسمبر «
» ریسم الاول	بدھ	۲۶، جنوری ۱۹۶۷ء
» ریسم الثانی	جمعہ	۲۵، فروری «
» جمادی الاول	ہفتہ	۲۶، مارچ «
» جمادی الثانی	سوموار	۲۵، اپریل «
» رجب	منگل	۲۳، مئی «
» شعبان	حیرات	۲۳، جون «
» رمضان	جمعہ	۲۲، جولائی «
» شوال	اتوار	۲۱، اگست «
» ذی قعده	سوموار	۱۹، ستمبر «
» ذی الحجه	بدھ	۱۹، اکتوبر «

# سے ۹ (ولادتِ نبویؐ کا نوام سال)

نیم محرم	جمرات	۱۴ اگست ۱۹۶۸ء
» صفر	ہفتہ	۱۵ اگسٹ ۱۹۶۸ء
» ربیع الاول	اتوار	۱۶ اگست ۱۹۶۸ء
» ربیع الثانی	منگل	۱۷ اگست ۱۹۶۸ء
» جمادی الاول	بدھ	۱۸ اگست ۱۹۶۸ء
» جمادی الثانی	جمعہ	۱۹ اگست ۱۹۶۸ء
» رجب	ہفتہ	۲۰ اگست ۱۹۶۸ء
» شعبان	سوموار	۲۱ اگست ۱۹۶۸ء
» رمضان	منگل	۲۲ اگست ۱۹۶۸ء
» شوال	جمرات	۲۳ اگست ۱۹۶۸ء
» ذی قعده	جمعہ	۲۴ اگست ۱۹۶۸ء
» ذی الحجه	اتوار	۲۵ اگست ۱۹۶۸ء

نامہ (ولادت نبویؐ کا دسوائیں سال)

یکم محرم	منگل	۵، نومبر	ع
صفر	جمرات	۶، دسمبر	"
ربيع الاول	جمعه	۷، جنوری	"
ربيع الثاني	اتوار	۸، فوری	"
جمادی الاول	سوموار	۹، مارچ	"
جمادی الثاني	پنجم	۱۰، اپریل	"
رجب	جمرات	۱۱، مئی	"
شعبان	سیفہت	یکم جون	"
رمضان	اتوار	۲۰، جون	"
شوال	منگل	۳۰، جولائی	"
ذی قعده	پنجم	۲۸، اگست	"
ذی الحجه	جمعه	۲۴، ستمبر	"

الله

(ولادت نبی مصطفیٰ گیارہواں سال)

یکم فتحم	پہنچتہ	۶ اکتوبر ۱۹۵۸ء
» صفر	سوموار	۲۵ نومبر »
» ریشم الاقل	منگل	۲۳ دسمبر »
» ریشم الثانی	جمعرات	۲۳ جنوری ۱۹۵۹ء
» جمادی الاول	جمعہ	۱۳ فروری »
» جمادی الثانی	اتوار	۲۳ مارچ »
» رجب	سوموار	۲۱ اپریل »
» شعبان	بدھ	۲۱ مئی »
» رمضان	جمعرات	۱۹ جون »
» شوال	پہنچتہ	۱۹ جولائی »
» ذی قعده	اتوار	۱۹ اگست »
» ذی الحجه	منگل	۱۶ ستمبر »

(ولادتِ نبویؐ کا پانچ سو اسال)

۱۲

یکم محرم	بدھ	۱۵، اکتوبر ۱۹۵۸ء
» صفر	جمعہ	۱۶، نومبر ۱۹۵۸ء
» ربیع الاول	ہفتہ	۱۷، دسمبر ۱۹۵۸ء
» ربیع الثانی	سوموار	جنوری ۱۹۵۹ء
» جمادی الاول	منگل	۱۸، فروری ۱۹۵۹ء
» جمادی الثانی	جمعہ	۱۹، مارچ ۱۹۵۹ء
» ربیوب	جمعہ	۲۰، اپریل ۱۹۵۹ء
» شعبان	الوار	۲۱، مئی ۱۹۵۹ء
» رمضان	سوموار	۲۲، جون ۱۹۵۹ء
» شوال	بدھ	۲۳، جولائی ۱۹۵۹ء
» ذی قعده	جمعہ	۲۴، اگست ۱۹۵۹ء
» ذی الحجه	ہفتہ	۲۵، ستمبر ۱۹۵۹ء

# السنة ا١٣ (ولادت نبویؐ کا تیر سو ان سال)

بیکم محرم	سوموار	۵، اکتوبر ۱۹۸۲
» صفر	بدھ	۶، نومبر ۰
» زیست الاول	جمعرات	۳، دسمبر ۰
» زیست الثانی	ہفتہ	۶، جنوری ۱۹۸۳
» جمادی الاول	الوار	۱۳، جنوری ۰
» جمادی الثانی	منگل	بیکم مہینہ ۰
» ربیع	بدھ	۳۰، مارچ ۰
» شعبان	جمیعہ	۲۹، اپریل ۰
» رمضان	ہفتہ	۲۸، مئی ۰
» شوال	سوموار	۲۶، جون ۰
» ذی قعده	منگل	۲۶، جولائی ۰
» ذی الحجه	جمعرات	۲۵، اگست ۰

# سالہ ۱۳

( ولادت نبوی کا چھوٹے ہوال سال )

یکم محرم	۳۰، ستمبر ۱۹۸۵ء	جمجم
» صفر	۳۱، اکتوبر ۱۹۸۵ء	اتوار
» ربیع الاول	۱، نومبر ۱۹۸۵ء	سمووار
» ربیع الثاني	۲۱، دسمبر ۱۹۸۵ء	بدھ
» جمادی الاول	۱۹، جنوری ۱۹۸۶ء	حمرہرات
» جمادی الثاني	۱۸، فروری ۱۹۸۶ء	ہفتہ
» رجب	۱۹، مارچ ۱۹۸۶ء	اتوار
» شعبان	۱۸، اپریل ۱۹۸۶ء	منگل
» رمضان	۱۷، مئی ۱۹۸۶ء	بدھ
» شوال	۱۶، جون ۱۹۸۶ء	جمعہ
» ذی قعده	۱۵، جولائی ۱۹۸۶ء	ہفتہ
» ذی الحجه	۱۴، اگست ۱۹۸۶ء	سمووار

شہر ۱۵ (ولادت نبی ﷺ کا پندرہ سو اسال)

یکم محرم	بعد	۱۴ ستمبر ۱۹۸۳ء
" صفر "	جمع " ۱۳ اکتوبر "	"
" ربیع الاول "	ہفتہ " ۱۱ نومبر "	"
" ربیع الثانی "	سوموار " ۱۱ دسمبر "	"
" جمادی الاول "	متلک " ۹ جنوری ۱۹۸۵ء	"
" جمادی الثانی "	حیرات " ۸ فروری "	"
" رجب "	جمع " ۹ مارچ "	"
" شعبان "	اقواز " ۸ اپریل "	"
" رمضان "	سوموار " ۷ مئی "	"
" شوال "	بعد " ۶ جون "	"
" ذی قعده "	حیرات " ۵ جولائی "	"
" ذی الحجه "	ہفتہ " ۳ اگست "	"

۱۶

(ولادت نبی مصطفیٰ کا سولہواں سال)

یکم محرم	۲ ستمبر ۱۹۸۵ء	اتوار
» صفر	۳، اکتوبر	منگل
» ربیع الاول	۴، اکتوبر	پدھ
» ربیع الثانی	۵، نومبر	جمعد
» جمادی الاول	۶، دسمبر	ہفتہ
» جمادی الثانی	۷، جنوری ۱۹۸۶ء	سوموار
» رجب	۸، فروری	منگل
» شعبان	۹، مارچ	جمیعت
» رمضان	۱۰، اپریل	جمعد
» شوال	۱۱، مئی	اتوار
» ذی قعده	۱۲، جون	سوموار
» ذی الحجه	۱۳، جولائی	پدھ

# سکھہ (ولادت نبویؐ کا سترہواں سال)

یکم محرم	جمعرات	۵۸۶ء، ۲۲ اگست
۰ صفر	ہفتہ	۵۸۷ء، ۲۱ ستمبر
۰ ربیع الاول	اتوار	۵۸۷ء، ۲۰ اکتوبر
۰ ربیع الثانی	منگل	۵۸۷ء، ۱۹ نومبر
۰ جمادی الاول	بده	۵۸۷ء، ۱۸ دسمبر
۰ جمادی الثانی	جمعہ	۵۸۷ء، ۱۷ جنوری
۰ رجب	ہفتہ	۵۸۷ء، ۱۵ فروری
۰ شعبان	سوموار	۵۸۷ء، ۱۴ مارچ
۰ رمضان	منگل	۵۸۷ء، ۱۳ اپریل
۰ شوال	جمعرات	۵۸۷ء، ۱۲ مئی
۰ ذی قعده	جمعہ	۵۸۷ء، ۱۱ جون
۰ ذی الحجه	اتوار	۵۸۷ء، ۱۰ جولائی

# الشہر (ولادت نبویؐ کا اٹھارہواں سال)

یکم محرم	منگل	۱۱ اگست ۱۹۵۸ء
» صفر	جمعرات	۱۰ ستمبر »
» ریبیع الاول	جمعہ	۹ اکتوبر »
» ریبیع الثانی	التوار	۸ نومبر »
» جمادی الاول	سوموار	۷ دسمبر »
» جمادی الثانی	بدھ	۶ جنوری ۱۹۵۸ء
» ربیوب	جمعرات	۳ فروری »
» شعبان	ہفتہ	۶ مارچ »
» رمضان	التوار	۳ اپریل »
» شوال	منگل	۳ مئی »
» ذی قعده	بدھ	۳ جون »
» ذی الحجه	جمعہ	۲ جولائی »

# ۱۹ ستمبر (ولادت نبویؐ کا انیسوال سال)

بیکم محرم	ہفتہ	ع ۵۸۸، جولائی ۱۳۱
۰ صفر	سوموار	۲۰، اگست "
۰ ربیع الاول	منگل	۲۸، ستمبر "
۰ ربیع الثانی	جمعرات	۲۹، رکنفیر "
۰ جمادی الاول	جمعہ	۲۰، نویمبر "
۰ جمادی الثانی	توار	۲۱، دسمبر "
۰ رب جمادی	سوموار	۲۲، جور کی ع ۵۸۹
۰ شعبان	پدھر	۲۳، فروری "
۰ رمضان	جمعرات	۲۴، مارچ "
۰ شوال	ہفتہ	۲۵، اپریل "
۰ ذی قعده	توار	۲۶، مئی "
۰ ذی الحجه	منگل	۲۷، جون "

## شماره ۲۰

(ولادت نبوی کا بیسوال سال)

نام فرم	پدھ	عمر جو لائی ۵۸۹	۲۰
» صفر	جمع	۱۹، اگست	«
» ربیع الاول	ہفتہ	۱۶، ستمبر	«
» ربیع الثانی	سوموار	۱۴، اکتوبر	«
» جمادی الاول	متسلک	۱۵، نومبر	«
» جمادی الثانی	جمعرات	۱۵، دسمبر	«
» ربیب	جمع	۱۳، جنوری ۵۹۰	ع
» شعبان	اتوار	۱۶، فروری	«
» رمضان	سوموار	۱۷، مارچ	«
» شوال	پدھ	۱۸، اپریل	«
» ذی قعده	جمعرات	۱۹، مئی	«
» ذی الحجه	ہفتہ	۲۰، جون	«

۳۔ خاتمه حسب قرار - اپریل مئی شمارہ ۵۹۰ مطابق شوال شمارہ ولادت نبوی

۴ (و) - حلق الفضول مئی جون شمارہ ۵۹۰ مطابق ذی قعده شمارہ ولادت نبوی

# سالہ ۲۱ (ولادت نبویؐ کا اکیسوال سال)

یکم محرم	سوموار	۱۰، جولائی ۵۹۰
صفر	بدھ	۹، اگست ۷
رمضان الاول	جمعرات	۶، ستمبر ۷
رمضان الثاني	ہفتہ	۷، اکتوبر ۷
جمادی الاول	آوار	۵، نومبر ۷
جمادی الثاني	منگل	۵، دسمبر ۷
رجب	بدھ	۳، جنوری ۵۹۱
شعبان	جمعہ	۷، فروری ۷
رمضان	ہفتہ	۷، مارچ ۷
شووال	سوموار	یکم اپریل ۷
ذی قعده	منگل	۳۰، اپریل ۷
ذی الحجه	جمعرات	۳۰، مئی ۷

## سے ۳۲ (ولادت نبوی کا بالیسوں سال)

یکم محرم	جمعہ	۵۹۱ جون ۱۹۲۸ء
» صفر	اتوار	۲۸ جولائی ۱۹۲۸ء
» زینیح الاول	سوموار	۲۶ اگست ۱۹۲۸ء
» زینیح الثانی	بدھ	۲۵ ستمبر ۱۹۲۸ء
» جادی الاول	جمعرات	۲۲ اکتوبر ۱۹۲۸ء
» جادی الثانی	ہفتہ	۳۰ نومبر ۱۹۲۸ء
» رجب	اتوار	۲۲ دسمبر ۱۹۲۸ء
» شعبان	مشکل	۲۱ جنوری ۱۹۲۹ء
» رمضان	بدھ	۱۹ فروری ۱۹۲۹ء
» شوال	جمعہ	۱۷ مارچ ۱۹۲۹ء
» ذی قعده	ہفتہ	۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء
» ذی الحجه	سوموار	۱۹ مئی ۱۹۲۹ء

# سالہ ۱۳۴۷ء (ولادت نبوی کا تیسواں سال)

نام محرم	بدھ	ع ۵۹۲ جمادی اول
صفر	جمعہ	۱۸ جولائی "
رمضان	ہفتہ	۱۶ اگست "
ربیع الثانی	سوموار	۱۵ ستمبر "
جمادی الثانی	منگل	۱۳ اکتوبر "
رمضان	جمعہ	۱۲ نومبر "
شعبان	اتوار	۱۱ جنوری " ع ۵۹۳
رمضان	سوموار	۹ فروری "
شووال	بدھ	۱۰ مارچ "
ذی قعده	جمعہ	۹ اپریل "
ذی الحجه	ہفتہ	۹ مئی "

۲۲

ر ولادت نبویؐ کا چو بیسوال سال)

یکم محترم	اتوار	۵۹۳ء، جون ۷
” صفر ”	منتگل	” جولائی ”
” ریبیع الاول ”	بدھ	۵ اگست
” ریبیع الثانی ”	جمعہ	۲۴ ستمبر
” جمادی الاول ”	سہفتہ	سراں اکتوبر
” جمادی الثانی ”	سوموار	۷ نومبر
” ربیوب ”	منتگل	یکم دسمبر
” شعبان ”	جمعرات	۱۳ دسمبر
” رمضان ”	جمعہ	۲۹ جنوری ۵۹۴ء
” شوال ”	اتوار	۲۸ فروری
” ذی قعده ”	سوموار	۲۹ مارچ
” ذی الحجه ”	بدھ	۳۰ اپریل

نیم محرم	محیرات	تاریخ
۰ صفر	ہفتہ	۲۶ جون
۰ بیت الاول	الوار	۲۵ جولائی "
۰ بیت الثانی	منگل	۲۲ اگست "
۰ جمادی الاول	بعد	۲۴ ستمبر "
۰ جمادی الثانی	جمعہ	۲۲ اکتوبر "
۰ ربیع	ہفتہ	۲۰ نومبر "
۰ شعبان	سوموار	۲۳ دسمبر "
۰ رمضان	منگل	۱۸ جنوری ۱۹۹۵ء
۰ شوال	محیرات	۱۰ فروری "
۰ ذی قعده	جمعہ	۱۰ مارچ "
۰ ذی الحجه	الوار	۱۶ اپریل "

## ۲۶ ستمبر (ولادت نبوی کا چھپیسوال سال)

یکم محرم	متکل	۱۶ مئی ۵۹۵ء
" صفر	حجرات	۱۵ جون
" ربیع الاول	جمعہ	۱۲ جولائی
" ربیع الثانی	اتوار	۱۳ اگست
" جمادی الاول	سمولر	۱۱ ستمبر
" جمادی الثانی	بدھ	۱۱ اکتوبر
" ربیع	حجرات	۹ نومبر
" شعبان	سُنّۃ	۹ دسمبر
" رمضان	اتوار	۷ جنوری ۵۹۶ء
" شوال	متکل	۶ فروری
" ذی قعده	بدھ	۶ رامبھ
" ذی الحجه	جمعہ	۶ اپریل

# شمس ۲۷ (ولادت نبوی کا ستائیسول سال)

نام محرم	ہفتہ	۵ مئی ۱۹۹۶ء
۰ صفر	سوموار	۲، جون "
۰ بیت الاول	منگل	۳، جولائی "
۰ بیت الثانی	جمعہ	۴، اگست "
۰ جمادی الاول	جمعہ	۱۳، اگست "
۰ جمادی الثانی	اتوار	بہترین " ۱۴، ستمبر
۰ ربیوب	سوموار	۲۹، اکتوبر "
۰ شعبان	پدھر	۲۸، نومبر "
۰ رمضان	جمعہ	۲۶، دسمبر "
۰ شوال	ہفتہ	۲۶، جنوری ۱۹۹۷ء
۰ ذی قعدا	اتوار	۲۷، فروری "
۰ ذی الحجه	منگل	۲۸، مارچ "

## ۲۸ ستمبر

(ولادت نبی کا اٹھائیسواں سال)

یکم محرم	بدھ	۱۵، اپریل ۱۹۶۹ء
» صفر	جمعہ	۲۲، مئی " "
» ریبیع الاول	ہفتہ	۲۲، جون " "
» ریبیع الثانی	سوموار	۲۲، جولائی " "
» جمادی الاول	منگل	۲۰، اگست " "
» جمادی الثانی	جمعہ	۱۹، ستمبر " "
» ربیوب	جمعہ	۱۸، اکتوبر " "
» شعبان	اتوار	۱۷، نومبر " "
» رمضان	سوموار	۱۶، دسمبر " "
» شوال	بدھ	۱۵، جنوری ۱۹۶۸ء
» ذی القعدا	جمعہ	۱۳، فروری " "
» ذی الحجه	ہفتہ	۱۵، مارچ " "

۲۳ (ب) ولادت حضرت علیؑ

۵، نومبر ۱۹۶۹ء مطابق ۲۳، ربیوب و ولادت نبیؐ

# ۲۹ ستمبر (ولادت نبویؐ کا انیسون سال)

نام محرم	سوموار	تاریخ اپریل ۱۹۵۸ء
۰ صفر	بدھ	۱۳ ربیعی
۰ ربيع الاول	جمعرات	۱۴ ربیعی
۰ ربيع الثاني	ہفتہ	۱۵ ربیعی
۰ جمادی الاول	اتوار	۱۶ ربیعی
۰ جمادی الثاني	متکل	۱۷ ربیعی
۰ رجب	بدھ	۱۸ ربیعی
۰ شعبان	جمع	۱۹ ربیعی
۰ رمضان	ہفتہ	۲۰ ربیعی
۰ شوال	سوموار	۲۱ ربیعی
۰ ذی قعده	متکل	۲۲ ربیعی
۰ ذی الحجه	جمعرات	۲۳ ربیعی

# سالہ (ولادت نبی ﷺ کا تیسال سال)

یکم محرم	جمعہ	۵۹۹ھ
۱۴ اپریل	اتوار	۱۰ مئی
» صغر	»	»
» ربيع الاول	سوموار	۱۳ مئی
» ربيع الثاني	پددھ	۳۰ جون
» جمادی الاول	محجرات	۲۹ جولائی
» جمادی الثاني	ہفتہ	۲۸ اگست
» رجب	اتوار	۶ ستمبر
» شعبان	منگل	۲۶ اکتوبر
» رمضان	پددھ	۲۳ نومبر
» شوال	جمعہ	۲۲ دسمبر
» ذی قعده	ہفتہ	۲۰ جنوری ۶۰۰ھ
» ذی الحجه	سوموار	۲۱ فروری

## سلسلہ ۱۳ (ولادت نبویؐ کا اکتسیسوال سال)

نام فرم	متلک	عمر ۶۰۰ مارچ ۱۹۷۲
صفر	جمعرات	۲۱، اپریل "
" زیست الاول	جمع	۲۰، مئی "
" زیست الثانی	آوار	۱۹، جون "
" چهارمی اللول	سوموار	۱۸، جولائی "
" چهارمی الثانی	پدھ	۱۷، اگست "
" رجب	جمعرات	۱۵، ستمبر "
" شعبان	سفرت	۱۴، اکتوبر "
" رمضان	آوار	۱۳، نومبر "
" شوال	متلک	۱۲، دسمبر "
" ذی قعده	پدھ	۱۱، جنوری ۱۹۷۳
" ذی الحجه	جمعہ	۱۰، فروری "

۳۲

(ولادتِ نبویؐ کا تینسوائی سال)

یکم محرم	اتوار	۱۰ مارچ ۱۹۶۰ء
» صفر	مشکل	۱۱ اپریل »
» ربیع الاول	بدھ	۱۰ اگسٹ »
» ربیع الثانی	جمعہ	۹ جون »
» جمادی الاول	ہفتہ	۸ جولائی »
» جمادی الثانی	سوموار	۷ اگست »
» رجب	مشکل	۵ ستمبر »
» شعبان	جمعہ	۴ اکتوبر »
» رمضان	جمعہ	۳ نومبر »
» شوال	اتوار	۲۰ دسمبر »
» ذی قعده	سوموار	یکم جنوری ۱۹۶۱ء
» ذی الحجه	بدھ	۳۱ جنوری »

# سالہ ۱۴۰۲ھ (ولادت نبویؐ کا تینیسوال سال)

یکم محرم	محیرات	یکم مارچ ۱۴۰۲ھ
۰ صفر	ہفتہ اسرار پارچہ	۰
۰ ریت الاول	انوار راہیل	۲۹
۰ ریت الثانی	منگل رمشی	۲۹
۰ جمادی الاول	پدھر جون	۲۸
۰ جمادی الثانی	جمع حملہ	۲۸
۰ ربیع اول	ہفتہ ۲۵ آگست	۰
۰ شعبان	سوموار ۲۲ ستمبر	۰
۰ رمضان	منگل ۲۳ اکتوبر	۰
۰ شوال	محیرات ۲۲ نومبر	۰
۰ ذی قعده	جمعہ ۲۱ دسمبر	۰
۰ ذی الحجه	انوار ۲۰ جنوری ۱۴۰۳ھ	۰

# سالہ ۳۷ (ولادت نبی ﷺ کا چوتھے سال، سال)

یکم محرم	منگل	۱۹ فروری ۶۰۳ھ
» صفر	جمعہ	۲۰ مارچ ۶۰۴ھ
» ربیع الاول	جمعہ	۱۸ اپریل ۶۰۴ھ
» ربیع الثانی	اتوار	۱۸ امری ۶۰۴ھ
» جمادی الاول	سوداوار	۱۶ جون ۶۰۴ھ
» جمادی الثانی	یدھ	۱۶ جولائی ۶۰۴ھ
» ربیع	جمعہ	۱۷ اگست ۶۰۴ھ
» شعبان	ہفتہ	۱۸ ستمبر ۶۰۴ھ
» رمضان	اتوار	۱۹ اکتوبر ۶۰۴ھ
» شوال	منگل	۱۱ نومبر ۶۰۴ھ
» ذی قعده	یدھ	۱۰ دسمبر ۶۰۴ھ
» ذی الحجه	جمعہ	۹ جنوری ۶۰۵ھ

# ۳۵ سالہ (ولادت نبوی ﷺ کا پنینسوال سال)

یکم محرم	ہفتہ	۶۰۴ قمری، فروری
» صفر	سوموار	۹، مارچ
» ربیع الاول	منگل	۱۰، اپریل
» ربیع الثانی	جمعہ	۱۱، مئی
» جمادی الاول	جمجمہ	۱۲، جون
» جمادی الثانی	اتوار	۱۳، جولائی
» رجب	سوموار	۱۴، ستمبر
» شعبان	منگل	۱۵، ستمبر
» رمضان	جمعہ	یکم اکتوبر
» شوال	ہفتہ	۲۱، اکتوبر
» ذی قعده	اتوار	۲۹، نومبر
» ذی الحجه	منگل	۲۹، دسمبر

# سلسلہ ۳۶ (ولادتِ نبویؐ کا چھتیسوائی سال)

نام مفترم	بدھ	عمر جنوی ۲۶
صفر	جمعہ	۲۶، قروری
رمضان	ہفتہ	۲۷، مارچ
جاذی	سوموار	۲۷، اپریل
جادی	متکل	۲۵، ربیعی
رمضان	جمعرات	۲۷، جون
رجب	جمعہ	۲۳، جولائی
شعبان	اتوار	۲۲، اگست
رمضان	سوموار	۲۰، ستمبر
شوال	بدھ	۲۰، اکتوبر
ذی قعده	جمعرات	۱۸، نومبر
ذی الحجه	ہفتہ	۱۸، دسمبر

# سالہ (ولادتِ نبوی کا سینتیسوال سال)

یکم فقرم	سوموار	۱۴، ارجنوری
۰ صفر	بدھ	۱۶، ارفنوری
۰ ربیع الاول	جمعرات	۱۷، ارمائی
۰ ربیع الثانی	ہفتہ	۱۸، اپریل
۰ جماں الاول	اتوار	۱۹، مریٹی
۰ جماں الثانی	منگل	۲۰، جون
۰ رجب	بدھ	۲۱، جولائی
۰ شعبان	جمعہ	۲۲، اگست
۰ رمضان	ہفتہ	۲۳، ستمبر
۰ شوال	سوموار	۲۴، اکتوبر
۰ ذی قعده	منگل	۲۵، نومبر
۰ ذی الحجه	جمعرات	۲۶، دسمبر

# سالہ ۳۸ (ولادت نبوی کا اٹھیسوں سال)

نیم محرم	جمعہ	۶ جنوری ۱۹۰۷ء
» صفر	اتوار	۵، ر فهوی
» ربیع الاول	سوموار	۵، ماچھ
» ربیع الثانی	پنجم	۳، اپریل
» جمادی الاول	حیرت	۳، مرٹی
» جمادی الثانی	سہفتہ	۲، جون
» رجب	اتوار	یکم جولائی
» شعبان	منگل	۱۳، جولائی
» رمضان	پنجم	۲۹، اگست
» شوال	جمعہ	۲۸، ستمبر
» ذی قعده	سہفتہ	۲۶، اکتوبر
» ذی الحجه	سوموار	۱۶، نومبر

# سے ۳۹ (ولادت نبویؐ کا اتنا لیسوال سال)

بیکم عمر	منگل	۵، ۲۰، ۳ سپتیمبر ۶۰۶ھ
بیکم صفر	جمعرات	۶۰۸، ۲۲، ۱ جنوری ۲۲
» ریسم الاول	جمعہ	۶۰۸، ۲۲، ۱ فروری «
» ریسم اثنانی	اتوار	۶۰۸، ۲۲، ۱ مارچ «
» جادی الاول	سوموار	۶۰۸، ۲۲، ۱ اپریل «
» جادی اثنانی	پدھ	۶۰۸، ۲۲، ۱ صی ۷
» رجب	جمعرات	۶۰۸، ۲۰، ۱ جون «
» شعبان	ہفتہ	۶۰۸، ۲۰، ۱ جولائی «
» رمضان	اتوار	۶۰۸، ۱۸، ۱ اگست «
» شوال	منگل	۶۰۸، ۱۸، ۱ ستمبر «
» ذی القعده	پدھ	۶۰۸، ۱۶، ۱ اکتوبر «
» ذی الحجه	جمعہ	۶۰۸، ۱۵، ۱ نومبر «

# شماره ۳۰ (ولادت نبی کا چال عیسوی سال)

یکم محرم	التار	۱۵ دسمبر ۶۰۸
یکم صفر	مؤمل	۱۷ جنوری ۶۰۹
» نیم الاول	بده	۱۶ فروری «
» نیم اثانی	جمع	۱۷ اکتوبر «
» جادی الاول	ہفتہ	۱۷ اپریل «
» جادی اثانی	سوموار	۱۷ مئی «
» رجب	منگل	۱۸ جون «
» شعبان	جمعات	۱۰ جولائی «
» رمضان	جمعہ	۸ اگست «
» شوال	اتوار	۱۰ ستمبر «
» ذی قعده	سوموار	۱۰ اکتوبر «
» ذی الحجه	بدھ	۱۵ نومبر «

# سلسلہ (بیشتر نبوی کا پہلا سال)

نیکم فقرم	محیرات	عمر ۶۰۹
۰ صفر	ہفتہ	سار جنوری ۶۱۰ ع
۰ ربیع الاول	اوار	نیکم فروری ۰
۰ ربیع الثاني	منگل	سوناپنہ ۰
۰ جمادی الاول	بدھ	نیکم اپریل ۰
۰ جمادی الثاني	جمعہ	نیکم مئی ۰
۰ رجب	ہفتہ	۳۰، مئی "
۰ شعبان	سوسوار	۲۹، جون ۰
۰ رمضان	منگل	۲۸، جولائی ۰
۰ شوال	محیرات	۲۷، اگست ۰
۰ ذی القدرہ	جمعہ	۲۵، ستمبر "
۰ ذی الحجه	اوار	۲۵، اکتوبر "

۵۔ نزول قرآن کا آغاز

۰، اگست ۶۱۰ (مطابق ۲۳، رمضان سلسلہ بیشتر نبوی)

## سنه (بعثت نبوی ﷺ کا دوسرا سال)

یکم محرم	سونوار	۲۱ نومبر ۶۱ھ
» صفر	پدرھ	۲۳ دسمبر ۶۱ھ
» بیع الاول	محیرات	۲۱ جنوری ۶۱ھ
» ربیع الثانی	ہفتہ	۲۰ فروری ۶۱ھ
» جمادی الاول	اقوار	۲۰ مارچ ۶۱ھ
» جمادی الثانی	منگل	۱۹ اپریل ۶۱ھ
» ربیع	پدرھ	۱۸ مریٹی ۶۱ھ
» شعبان	جمح	۱۸ جون ۶۱ھ
» رمضان	ہفتہ	۶ جولائی ۶۱ھ
» شوال	سونوار	۱۵ اگست ۶۱ھ
» ذی قعده	منگل	۱۳ ستمبر ۶۱ھ
» ذی الحجه	محیرات	۱۳ اکتوبر ۶۱ھ

## سالہ (بیعت نبویؐ کا تیسرا سال)

نام فرم	ہفتہ	تاریخ
صفر	سوموار	۱۰ دسمبر ۶۱۱ھ
منگل	منگل	۱۰ جنوری ۶۱۲ھ
جمعرات	جمعرات	۹ فروری " "
جمادی الاول	جمصر	۱۰ مارچ "
التوار	التوار	۹ اپریل "
سوموار	رمضانی	۸ رمذانی "
بدھ	بدھ	۷ جون "
جمعرات	رمضان	۶ جولائی "
شوال	ہفتہ	۵ اگست "
التوار	ستمبر	۴ ستمبر "
منگل	ذی الحجه	۳، اکتوبر "

## سالہ ۲ (بعثتِ نبویؐ کا چوتھا سال)

یکم محرم	بدھ	یکم نومبر ۶۱۳ھ
صفر	جمعہ	" دسمبر "
ریبیع الاول	ہفتہ	۳۰ دسمبر
ریبیع الثانی	سوموار	۲۹ جنوری ۶۱۴ھ
جمادی الاول	منگل	۲۸ فروری "
جمادی الثانی	جمعرات	۲۹ مارچ
رجب	جمعہ	۲۶ اپریل "
شعبان	اتوار	۲۸ مئی
رمضان	سوموار	۲۵ جون "
شوال	بدھ	۵ جولائی "
ذی قعده	جمرات	۲۳ اگست "
ذی الحجه	ہفتہ	۲۲ ستمبر "

## سہ (بعثتِ نبویؐ کا پانچواں سال)

یکم محرم	سوداں	۶۱۳ھ / ۲۰ اکتوبر
۰ صفر	بدھ	۲۱ نومبر " "
۰ ریبیع الاول	محیرات	۲۰ دسمبر " "
۰ ریبیع الثانی	ہفتہ	۱۹ جنوری ۶۱۴ھ
۰ جمادی الاول	اولہ	۱۸ فروری " "
۰ جمادی الثانی	منگل	۱۹ مارچ " "
۰ ربیوب	بدھ	۱۸ اپریل " "
۰ شعبان	جمعہ	۱۸ ارمی " "
۰ رمضان	ہفتہ	۱۵ جون " "
۰ شوال	سوداں	۱۵ جولائی " "
۰ ذی قعده	منگل	۱۶ اگست " "
۰ ذی الحجه	محیرات	۱۶ ستمبر " "

۴ - پہلی ہجرتِ حجتہ

رمذان ۶۱۴ھ (مطابق رجب شہ بیعتِ نبویؐ)

## سے ۶ (بیعت نبوی کا چھٹا سال)

یکم محرم	جمعہ	۱۱، اکتوبر ۱۹۶۱ء
» صفر	اتوار	۱۰، نومبر »
» ربیع الاول	سمووار	۹، دسمبر »
» ربیع الثانی	بدھ	۸، جنوری ۱۹۶۲ء
» جمادی الاول	جمعرات	۷، فروری »
» جمادی الثانی	ہفتہ	۶، مارچ »
» رجب	اتوار	۵، اپریل »
» شعبان	منگل	۵، مئی »
» رمضان	بدھ	۴، جون »
» شوال	جمعہ	۳، جولائی »
» ذی قعده	ہفتہ	یکم اگست »
» ذی الحجه	سمووار	۱۳، اگست »

# سکم (بیعت نبوی کا سال توں سال)

یکم محرم	منگل	۶۱۵ ستمبر ۲۰
۰ صفر	جمعرت	۲۹، اکتوبر "
۰ ربیع الاول	جمعہ	۲۸، نومبر "
۰ ربیع الثانی	اقوار	۲۷، دسمبر "
۰ جمادی الاول	سوداں	۲۵، جنوری ۶۱۶
۰ جمادی الثانی	بدھ	۲۴، فروری "
۰ رجب	جمعرات	۲۵، مارچ "
۰ شعبان	ہفتہ	۲۳، نیپریل "
۰ رمضان	اقوار	۲۳، مئی "
۰ شوال	منگل	۲۲، جون "
۰ ذی قعده	بدھ	۲۱، جولائی "
۰ ذی الحجه	جمعہ	۲۰، اگست "

- غمازوہ شعبابی طالب کا پہلا دن

۲۹ ستمبر ۶۱۵ء (مطابق یکم محرم شدہ بیعت نبوی)

# شہر (بعثت نبی ﷺ کا آنھوں سال)

یکم محرم	اتوار	۱۹ ستمبر ۶۱۴ ع
» صفر	منگل	۱۹ اکتوبر »
» ربیع الاول	پدھ	۱۴ نومبر »
» ربیع الثانی	جمع	۱۴ دسمبر »
» جمادی الاول	ہفتہ	۱۵ جنوری ۶۱۵ ع
» جمادی الثانی	سوموار	۱۲ فروری »
» ربیوب	ستگل	۱۵ مارچ »
» شعبان	جمیرات	۱۷ اپریل »
» رمضان	جمع	۳۰ اریٹی »
» شوال	اتوار	۱۶ جون »
» ذی قعده	سوموار	۱۱ جولائی »
» ذی الحجه	بعد	۱۰ اگست »

## سنه ۹ (بعثت پوئی کا زوال سال)

یکم محرم	جمعرات	ع ۶۱، ستمبر ۸
۰ صفر	ہفتہ	۸، اکتوبر "
۰ نیم الاول	اتوار	۶، نومبر "
۰ نیم الثانی	منگل	۶، دسمبر "
۰ جمادی الاول	بده	۲۳، جنوری ۸۶۱
۰ جمادی الثانی	جمعہ	۲۰، فروری "
۰ رجب	ہفتہ	۲۳، مارچ "
۰ شعبان	سوموار	۳۰، اپریل "
۰ رمضان	منگل	۲، مئی "
۰ شوال	جمعرات	یکم جون "
۰ ذی قدرہ	جمعہ	۳۰، جون "
۰ ذی الحجه	اتوار	۳۰، جولائی "

تاریخ  
دینشت بنوی کا دسوال سال)

یکم فرمت	سوموار	۱۸، اگست ۱۹۶۸
» صفر	پدھ	۲۷، سپتبر »
» دیع الاول	جمرات	۲۶، اکتوبر »
» دیع الثانی	ہفتہ	۲۵، نومبر »
» اتوار	چادری الاقل	۲۴، دسمبر »
» مسئلہ	جاذبی الشافی	۲۳، جنوری ۱۹۶۹
» رجب	پدھ	۲۱، فروری »
» شعبان	جمعہ	۲۲، مارچ »
» رمضان	ہفتہ	۲۰، اپریل »
» شوال	سوموار	۱۹، مئی »
» ذی قعدہ	مسئلہ	۱۸، جون »
» ذی الحجه	جمرات	۱۸، جولائی »

۸۔ وفات حضرت خدیجہؓ

۹۔ اپریل ۶۱۹ھ

(مطابق اول مصائب حضرت نبیؐ)

۱۰۔ ابوطالب کی وفات تین روز بعد ہوئی

۱۱۔ نکاح حضرت عائشہؓ و حضرت سودہؓ

۱۲۔ جون ۶۱۹ھ (مطابق شوال شمسی)  
(یعنی بیعت نبیؐ)

۱۰- سفر طائف

مئی جون ۶۱۹ م (متاپنی شوال تسلیم بعثت نبوی ﷺ)

# الله (بعثت نبوي کا گیارہواں سال)

۱۱) دوسری ملاقات اہل یثرب فروری ماہ پچ ۶۲۰ھ (مطابق رجب اللہ بعثت نبی)	۱۰۔ رمضان جمعہ ۱۱۔ شوال سہنہ ۱۲۔ ذی القعڈہ آوار ۱۳۔ ذی الحجه منگل ۱۴۔ چون سووار ۱۵۔ ربیع الاول منگل ۱۶۔ ربیع الثانی حجراۃ ۱۷۔ جمادی الاول جمعہ ۱۸۔ جمادی الثانی آوار ۱۹۔ رجب سووار ۲۰۔ شعبان بدھ ۲۱۔ اپریل حجراۃ ۲۲۔ اگسٹ سووار ۲۳۔ ستمبر حجراۃ ۲۴۔ اکتوبر منگل ۲۵۔ نومبر " ربيع الاول ۲۶۔ دسمبر " ربيع الثانی
---	--

## سلسلہ (بعثتِ نبویؐ کا بارہواں سال)

۱۲۔ محرّاج  
مارچ اپریل ۶۲۱ھ

(مطابق رمضان سلسلہ بعثتِ نبویؐ)

یکم محرم	بدھ	۶، اگست ۶۲۰ھ
۰ صفر	جمعہ	۵، ستمبر ۰
۰ زیست الاول	ہفتہ	۳، اکتوبر ۰
۰ ریح اثنانی	سوموار	۳، نومبر ۰
۰ جمادی الاول	منگل	۲، دسمبر ۰
۰ جمادی الثانی	جمعرات	یکم جنوری ۶۲۱ھ
۰ ربیوب	جمعہ	۳، جنوری ۰
۰ شعبان	اتوار	یکم مارچ ۰
۰ رمضان	سوموار	۳، مارچ ۰
۰ شوال	بدھ	۷، اپریل ۰
۰ ذی قعده	جمعرات	۲۸، مئی ۰
۰ ذی الحجه	ہفتہ	۲۸، جون ۰

## سالہ ۱۳ (بعثت نبوی کا تیرہ سو ان سال)

یکم محرم	سوموار	۶۲۱ جولائی ۱۹۷۶ء
۰ صفر	بدھ	۱ آگسٹ ۱۹۷۶ء
۰ ربیع الاول	جمعرات	۲۲ ستمبر ۱۹۷۶ء
۰ ربیع الثانی	ہفتہ	۲۳ اکتوبر ۱۹۷۶ء
۰ جمادی الاول	اوار	۲۴ نومبر ۱۹۷۶ء
۰ جمادی الثانی	منگل	۲۵ دسمبر ۱۹۷۶ء
۰ رجب	بدھ	۲۶ جنوری ۱۹۷۷ء
۰ شعبان	جمعہ	۱۹ فروری ۱۹۷۷ء
۰ رمضان	ہفتہ	۲۰ مارچ ۱۹۷۷ء
۰ شوال	سوموار	۱۹ اپریل ۱۹۷۷ء
۰ ذی قعده	منگل	۱۸ مئی ۱۹۷۷ء
۰ ذی الحجه	جمعرات	۱۹ جون ۱۹۷۷ء

(مطابق ۱۹۷۶ء صفر سال بعثت نبوی)  
 (ب) بحیرت مدینہ از غارِ ثور  
 ۱۱ ستمبر ۱۹۷۶ء  
 (مطابق ۱۹۷۶ء صفر سالہ صفر)

## سلسلہ (ہجرت نبوی کا پہلا سال)

بیکم محرم	جمعہ	۱۶، جولائی ۶۲۷ھ
» صفر	اتوار	۱۵، اگست «
» ربیع الاول	سوموار	۳۰، ستمبر «
» ربیع الثانی	بدھ	۳۱، اکتوبر «
» جمادی الاول	جمعرات	۱۱، نومبر «
» جمادی الثانی	ہفتہ	۱۱، دسمبر «
» ربیعہ	اتوار	۹، جنوری ۶۲۸ھ
» شعبان	منگل	۸، فروری «
» رمضان	بدھ	۹، مارچ «
» شوال	جمعہ	۸، اپریل «
» ذی قعده	ہفتہ	۷، مئی «
» ذی الحجه	سوموار	۶، جون «

۱۹۔ ظہر عصر اور عشاء میں دو رکعتوں کی بجائے چار رکعتوں کی فرضیت  
 ستمبر ۶۲۷ھ (مطابق ۱۱ ربیع الاول ۶۲۸ھ)

## سالہ (ہجرت نبوی کا دوسرے سال)

نیم محرم	منگل	۵، جولائی ۶۲۳ء	۱۰، اگست	۲۰۔ آیتِ اجازتِ جہاد بالسیف کا نزول
صفر	جمعرات	"	"	۱۵، اگست ۶۲۳ء
ربیع الاول	جمع	۱۰، ستمبر	"	(مطلوبیت صفر سالہ)
ربیع الثاني	اتوار	۱۱، اکتوبر	"	۲۱۔ سریّہ الْعَدْدیہ - ستیر ۶۲۳ء
جمادی الاول	سوموار	۱۲، اکتوبر	"	(مطلوبیت ربیع الاول سالہ)
جمادی الثاني	پہنچ	۱۳، نومبر	"	۲۲۔ غزوہ صفاران - نومبر ۶۲۳ء
رب جمادی	جمعرات	۱۴، دسمبر	"	(مطلوبیت جمادی الثانی سالہ)
شعبان	ہفتہ	۱۵، جنوری ۶۲۴ء	۲۸	۲۳۔ تحویل قبلہ ہجۃ النمرود ۶۲۳ء
رمضان	اتوار	۱۶، فروری	۲۶	(مطلوبیت شعبان سالہ)
شوال	منگل	۱۷، مارچ	۲۹	۲۷۔ صیامِ رمضان کی فرضیت
ذی قعده	پہنچ	۱۸، اپریل	۲۵	فروری مارچ ۶۲۳ء (مطلوبیت رمضان سالہ)
ذی الحجه	جمع	۱۹، مئی	"	۲۹۔ جنگ بدرا - ۱۷، مارچ ۶۲۳ء (مطلوبیت اول رمضان سالہ)
				۳۰۔ اسلام میں پہلی عیدِ القطر - ۲۰، مارچ ۶۲۳ء (مطلوبیت نیم شوال سالہ)
				۳۱۔ رخصستانِ حضرت عائشہؓ مارچ اپریل ۶۲۳ء (مطلوبیت شوال سالہ)

۲۵۔ جنگ بدرا - ۱۷، مارچ ۶۲۳ء (مطلوبیت اول رمضان سالہ)

۲۶۔ اسلام میں پہلی عیدِ القطر - ۲۰، مارچ ۶۲۳ء (مطلوبیت نیم شوال سالہ)

۲۷۔ رخصستانِ حضرت عائشہؓ مارچ اپریل ۶۲۳ء (مطلوبیت شوال سالہ)

## سُمَّه (ہجرتِ نبوی کا تیسرا صل)

یکم فتحم	اتوار	۶۴۲۲ جون
» صفر	منگل	۶۴۲۲ جولائی
» ربیع الاول	پیدھ	۶۴۲۲ اگست
» ربیع الثانی	جمعہ	۶۴۲۲ ستمبر
» جمادی الاول	ہفتہ	۶۴۲۲ اکتوبر
» جمادی الثانی	سوموار	۶۴۲۲ نومبر
» ربج	منگل	۶۴۲۲ دسمبر
» شعبان	محیرات	۶۴۲۵ جنوری
» رمضان	جمعہ	۶۴۲۵ فروری
» شوال	اتوار	۶۴۲۵ مارچ
» ذی قعده	سوموار	۶۴۲۵ اپریل
» ذی الحجه	پیدھ	۶۴۲۵ مئی

۲۸۔ غزوہ قرقنة الکرد اور  
غزوہ قینقاع۔ مارچ اپریل ۶۴۲۳ء  
(مطابق شوال ۱۴۰۷ھ)

- ۲۹۔ غزوہ سویق۔ مئی جون ۶۴۲۳ء (مطابق ذوالحجہ سُمَّہ)
- ۳۰۔ حضرت علیؓؒ سے حضرت قاطمہؓؒ کا نکاح۔ مئی جون ۶۴۲۳ء (مطابق ذوالحجہ سُمَّہ)
- ۳۱۔ اسلام میں پہلی عبیدالاًضیحہ۔ ۳ جون ۶۴۲۳ء (مطابق اول ذوالحجہ سُمَّہ)
- ۳۲۔ غزوہ ذی اسر۔ جون یا جولائی ۶۴۲۳ء (مطابق فرمایا صفر سُمَّہ)

- ۳۳۔ حضرت عثمانؓ سے حضرت ام کلثوم رضیہ کا نکاح۔  
اگست ستمبر ۶۲۲ھ ( مطابق ربیع الاول سنہ ص )
- ۳۴۔ غزوہ بحران -  
اگست ستمبر ۶۲۲ھ ( مطابق جمادی الاول سنہ ص )
- ۳۵۔ غزوہ بنی سلیم -  
اکتوبر نومبر ۶۲۲ھ ( مطابق جمادی الاول سنہ ص )
- ۳۶۔ سحریہ زید بن حارثہ بطرف قرہ  
نومبر دسمبر ۶۲۲ھ ( مطابق جمادی الثانی سنہ ص )
- ۳۷۔ قتل کعب بن اشرف  
نومبر دسمبر ۶۲۲ھ ( مطابق جمادی الثانی سنہ ص )
- ۳۸۔ شادی حضرت حضرت  
جنوری فردی ۶۲۵ھ ( مطابق شعبان سنہ ص )
- ۳۹۔ ولادت حضرت امام حسنؑ  
یکم مارچ ۶۲۵ھ ( مطابق ۱۵ رمضان سنہ ص )
- ۴۰۔ غزوہ احمد  
۳۴، مارچ ۶۲۵ھ ( مطابق ، رشوی سنہ ص )

## سالہ ۳ (ہجرت نبویؐ کا چوتھا سال)

۲۱۔ بنو لیکیان کی شرکت اور قتل سفیان

جنون جولائی ۶۲۵ء

(مطابق محرم شمسیہ)

۲۲۔ کفار کی غداری - واقعہ حجیع

واقعہ بصرہ موعودہ۔

جولائی اگست ۶۲۵ء

(مطابق صفر شمسیہ)

۲۳۔ اخراج بنو نضیر۔

اگست ستمبر ۶۲۵ء

(مطابق ربيع الاول شمسیہ)

۲۴۔ ولادت حضرت امام حسینؑ ۹ جنوری ۶۲۶ء (مطابق ۲ شعبان شمسیہ)

۲۵۔ تزویج حضرت ام سلمہؓ۔ مارچ اپریل ۶۲۶ء (مطابق شوال شمسیہ)

۲۶۔ غزوہ بدالموند۔ اپریل مئی ۶۲۶ء (مطابق ذی قعده شمسیہ)

یکم محرم	جمعرات	۱۳ جون ۶۲۵ء
» صفر	ہفتہ	۱۴ جولائی «
» ربیع الاول	توار	۱۱ اگست «
» ربیع الثانی	منگل	۱۰ ستمبر «
» جمادی الاول	یہود	۹ اکتوبر «
» جمادی الثانی	جمح	۸ نومبر «
» ربیع	ہفتہ	۷ دسمبر «
» شعبان	سوموار	۶ جنوری ۶۲۶ء
» رمضان	منگل	۵ فروری «
» شوال	جمعرات	۴ مارچ «
» ذی قعده	جمح	۳ اپریل «
» ذی الحجه	توار	۲ رسمی «

# شہر (ہجرت نبویؐ کا پانچواں سال)

یکم محرم	سوموار	چھوٹون ۶۲۶ ع
۰ صفر	پدھن	ہجرت جولائی ۶۲۶ ع
۰ رہبیت الاول	جمعرات	۱۳ جولائی ۶۲۶ ع
۰ سینع الثانی	ہفتہ	۱۴ اگست ۶۲۶ ع
۰ حمادی الاول	آتوار	۱۵ ستمبر ۶۲۶ ع
۰ حمادی الثانی	منگل	۱۶ اکتوبر ۶۲۶ ع
۰ رجب	پدھن	۱۷ نومبر ۶۲۶ ع
۰ شعبان	جمعہ	۱۸ دسمبر ۶۲۶ ع
۰ رمضان	ہفتہ	۱۹ جنوری ۶۲۷ ع
۰ شوال	سوموار	۲۰ فروری ۶۲۷ ع
۰ ذی قعده	منگل	۲۱ مارچ ۶۲۷ ع
۰ ذی الحجه	جمعرات	۲۲ اپریل ۶۲۷ ع

۳۴ - غزوہ دومنہ الجندل  
جولائی آگست ۶۲۶ ع  
(مطابق ربیع الاول شہر)  
۳۵ - مدینہ میں خشو قمر اور صلوٰۃ شوف  
نومبر ۶۲۶ ع  
(مطابق حمادی الثانی شہر)

۳۶ - غزوہ بیو مصطفیٰ اور واقعہ اقلٰع - دسمبر ۶۲۶ ع و جنوری ۶۲۷ ع

۳۷ - غزوہ خندق - فروری مارچ ۶۲۷ ع (مطابق شوال شہر)

۳۸ - غزوہ بنو قریشہ - مارچ اپریل ۶۲۷ ع (مطابق ذی قعده شہر)

## سے ۶ (ہجرت نبیوی کا چھٹا سال)

۵۴۔ سریہ قرطاء۔

نام فرم	سہفتہ	۶۶۲ء مئی ۲۳	۶۶۲ء مئی ۲۴
صفر	سوموار	۲۲ جون	"
ربيع الاول	منگل	۲۱ جولائی	"
ربيع الثاني	جمعرات	۲۰ اگست	"
جمادی الاول	جمعہ	۱۹ ستمبر	"
جمادی الثاني	اتوار	۱۸ اکتوبر	"
رجب	سوموار	۱۷ نومبر	"
شعبان	پہنچ	۱۶ دسمبر	"
رمضان	جمرات	۱۵ جنوری ۶۶۳ء	"
شووال	سہفتہ	۱۴ ارفروزی	"
ذی قعده	اتوار	۱۳ مارچ	"
ذی الحجه	منگل	۱۲ اپریل	"

۵۵۔ ابوالعاص (دلماد رسول کا قبول اسلام)

۵۶۔ غزوہ بن لحیان

ستمبر اکتوبر ۶۶۲ء (مطابق جمادی الثاني ۶۶۳ء)

۵۷۔ سریہ زید بن حارثہ برائے طرف۔ اکتوبر نومبر ۶۶۲ء (مطابق جملوی اشنا ۶۶۳ء)

۵۸۔ سریہ زید بن حارثہ بطرف حسین۔ اکتوبر نومبر ۶۶۲ء (مطابق جمادی الثاني ۶۶۳ء)

۶۱۔ سری نیدبی حادثہ بطرف ولدی القری - نومبر ۷۲۴ھ (مطابق جب شہر)

۶۲۔ سری دو متالجتل - سری علی بطرف فدک -

دسمبر ۷۲۴ھ جنوری ۶۲۸ھ (مطابق شعبان شہر)

۶۳۔ ابو رافع یہودی کا قتل - آنحضرتؐ کی دعائے استسقاء افغانستان میں پارش۔

جنوری فروردی ۶۲۸ھ (مطابق رمضان شہر)

۶۴۔ خسر و شان شاہ ایران کا اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل -

فروردی ۶۲۸ھ (مطابق شوال شہر)

۶۵۔ آنحضرتؐ کے قتل کی سازش - سری عمرو بن امیہ

فروردی مارچ ۶۲۸ھ (مطابق شوال شہر) .

۶۶۔ قیائل عمل و عربیہ کی قدری اور اس کا ہونا ک انعام -

فروردی مارچ ۶۲۸ھ (مطابق شوال شہر)

۶۷۔ بیعتِ رضوان اور صلح حبیبیہ - معجزہ مصکیت الماء -

مارچ ۶۲۸ھ (مطابق ذی قعده شہر)

## سکھ (ہجرتِ نبویؐ کا سالوں سال)

۱۔ آنحضرتؐ کے تبلیغی خطوط

بادشاہوں کے نام - اپریل تا جون ۶۲۸ھ

(مطابق ذوالحجہ تا محرم شمسی)

۲۔ تاہ - آنحضرتؐ پر حادثہ مرغوب و فرم

- سرتیہ زبان بن سعید لطیف بند

- حضرت ابو ہریرہؓ کا قبولِ اسلام

- غزوہ ذی قدر یعنی غابرہ -

مئی جون ۶۲۸ھ (مطابق محرم شمسی)

۳۔ غزوہ خیبر - آنحضرتؐ کو نہر

دینے کی سازش حضرت صفیہؓ کی

آنحضرتؐ سے شادی -

مئی تا جولائی ۶۲۸ھ (مطابق محرم)

صفر شمسی

یکم محرم	بدھ	جمعہ	۱۱ مئی ۶۲۸ھ
۰ صفر	جمعہ	۱۰ جون	"
۰ ربیع الاول	ہفتہ	۹ جولائی	"
۰ ربیع الثانی	سمووار	۸ اگست	"
۰ جمادی الاول	منگل	۹ ستمبر	"
۰ جمادی الثانی	جمعرات	۶ راکتوبر	"
۰ رجب	جمعہ	۳ نومبر	"
۰ شعبان	اتوار	۲۷ دسمبر	"
۰ رمضان	سمووار	۲ جنوری ۶۲۹ھ	"
۰ شوال	بدھ	یکم فروری	"
۰ ذی قعده	جمعرات	۲ مارچ	"
۰ ذی الحجه	ہفتہ	یکم اپریل	"

۴۔ اہل فک کے ساتھ آنحضرتؐ کی مصالحت - ارضی حجاز میں غیر مسلموں کے رہتے

کے بارے میں اسلامی حکم - مئی تا جولائی ۶۲۸ھ (مطابق محرم صفر شمسی)

۵۔ غزوہ وادی القری - فہارجین جہشک مدینہ میں والپی - حضرت ام جعیہؓ

بنت ابوسفیان کا رخصتاء - غزوہ ذات الرقاع اور صلواۃ خوف - حضرت ماریمؓ قطبہ

آنحضرتؐ کے خدمت مبارک میں۔

۱۔ اکتوبر نومبر ۶۲۸ھ ( مطابق تجدادی اثنانی شہر )

۲۔ سریّہ حضرت عمر لطیف تربتہ - سریّہ بشیر بن ساعد لطیف بنی مرہ

دسمبر ۶۲۸ھ، جنوری ۶۲۹ھ ( مطابق شعبان شہر )

۳۔ سریّہ غالب بن عبد اللہ المیشی لطیف میضہ اور حضرت اسامہ رضیٰ کے ہاتھوں ایک کلمہ گو کا قتل - جنوری ۶۲۹ھ ( مطابق رمضان شہر )

۴۔ سریّہ بشیر بن ساعد لطیف عین وجباء سریّہ ابن عمر لطیف مجذ فروری ۶۲۹ھ ( مطابق شوال شہر )

۵۔ عمرۃ القضاہ - شادی حضرت ممیزہ ( آنحضرتؐ کی آخری شادی )

ماہ پچ ۶۲۹ھ ( مطابق ذی قعده شہر )

## سیمہ (ہجرت نبویؐ کا آٹھوائی سال)

یکم محرم	سوموار	یکم مئی ۶۲۹
۹۰۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن معاذ کا قبول اسلام۔	پدھر	۳۱ ربیعی
۹۱۔ سریہ غالب بن عبد اللہ	تبرات	۲۹ ربیع الاول
لیبرف بیتی طور	سہمت	۲۹ ربیع الثانی
۹۲۔ سریہ غالب بن عبد اللہ لیبرف	اتوار	۲۶ اگست
قدک، میں جوں (مطابق صفر شہر)	منگل	۲۴ ستمبر
۹۳۔ مسجد نبویؐ میں منبر کی تجویز اور حنینی المجزع کا واقعہ۔ میں جون ۶۲۹	بعد	۲۵ اکتوبر
(مطابق صفر شہر)	جمعہ	۲۲ نومبر
۹۴۔ اسلام میں قتل کے جرم میں قتل کی پہلی سزا۔ میں جون ۶۲۹	سہمت	۲۳ دسمبر
(مطابق صفر شہر)	منگل	۲۳ جنوری ۶۳۰
۹۵۔ سریہ شجاع بیوی وہب لیبرف بیتی عام	ذی قعدہ	۲۰ فروری
سریہ کعب بن عمر لیبرف ذات اطلاع جون جولائی ۶۲۹ (مطابق ربیع الاول)	منگل	۲۰ مارچ
۹۶۔ عرب کی شمالی سرحد میں اسلام کے خلاف پریگانہ اور ہب وی مالک کے خلاف کا آغاز۔ اگست ستمبر ۶۲۹ (مطابق جادی الاول شہر)	جمعہ	۲۶ مارچ

- ۹۸ - غزوہ موت اور زیدیت حارثہ - جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواہ کے شہادت۔ اگست ستمبر ۶۱۹ ع (مطابق جمادی الاول شمسی)
- ۹۹ - سریت عمرو بن عاص لطرف ذات ملائیں اور سریت ابو عبیدہ مکہ کی حضرت میں ستمبر اکتوبر ۶۱۹ ع (مطابق جمادی الثانی شمسی)
- ۱۰۰ - سریت ابو عبیدہ بطرف السیف البحیر - اکتوبر نومبر ۶۱۹ ع (مطابق ربیع شمسی) اس سریت میں راشن بنندی کا ضرورت پیش آئی۔ اور خواراک کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا
- ۱۰۱ - سریت ابو قاتدہ لطرف خضرہ - نومبر ۶۱۹ ع (مطابق ربیع شمسی)
- ۱۰۲ - سریت ابو قاتدہ لطرف بطون ہرم - سریت عبد اللہ بن ابی حمود لطرف قابہ - نومبر دسمبر ۶۱۹ ع (مطابق رمضان شمسی)
- ۱۰۳ - غزوہ فتح مکہ - دسمبر ۶۱۹ ع (مطابق رمضان شمسی) حرم کی حدود میں شکرِ اسلام کا پرانا اور شاندار داخلہ۔ آنحضرتؐ کا عنقر عالم۔ بعض خصوصیات میں مذکور کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضوی کے والد ابو قاتدہ - ابو سینا بن حکیم بن حرام۔ صفویان بن امیة اور عکبرہ این ابی جہل کا قبول اسلام۔ مکہ سے بعثت خالد بن لطف عڑا، عمرو بن عاص لطرف سوری، سعد بن زید لطرف مناہ سریت خالد بن لطف جنوبیہ۔ جنوری نسلیہ (مطابق رمضان شمسی)
- ۱۰۴ - غزوہ حین (والپی پر ابو مندورہ کے اذان دینے اور انعام پانے کا واقعہ۔ جنوری فروری ۶۲۰ ع (مطابق شوال شمسی) ابو مندورہ وقتی میرم سریت ابو عامر اشعری لطرف او طاس۔ سریت طفیل بن عامر لطرف ذو الکفین جنوری فروری ۶۲۰ ع (مطابق شوال شمسی)

### ۱۰۶۔ غزوہ طائف

جعفر بن اے مقام پر غنائم کی تقسیم، بعض انصاری فوجوں کا اعتراض اور آنحضرت ﷺ کا لطیف جواب، پسے رضائی عزیز دوں سے آنحضرت ﷺ کا انتہائی مریبیاں سلوک، رئیس بھریں کی طرف تبلیغی خط اور اس کا جواب، اسلام میں بیکار لوگوں کے گزارہ کا استثنائی انظام۔ جنوری فوری ۶۳۰ (مطابق شوال شمسی)

### ۱۰۷۔ حضرت ابی اسیم رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت۔

مارچ اپریل ۶۳۰ ع (مطابق ذی الحجه شمسی)

### ۱۰۸۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں عرب کے مختلف اطراف سے وفاد کی ابتدا۔

اپریل ۶۳۰ ع (مطابق ذوالحجہ شمسی)

## سے ۹ (ہجرت نبویؐ کا نواں سال)

سیکم محرم	جمعہ	۲۰ اپریل ۶۳۰ھ
، صفر	اتوار	۲۰ ربیعی
، ربیع الاول	سموار	۱۸ جون
، ربیع الثانی	بدھ	۱۸ جولائی
، جمادی الاول	جمرات	۱۴ اگست
، جمادی الثانی	ہفتہ	۵ ستمبر
، رجب	اتوار	۳۰ اکتوبر
، شعبان	متکل	۳۰ نومبر
، رمضان	بدھ	۱۲ دسمبر
، شوال	جمعہ	۱۱ جنوری ۶۳۱ھ
، ذی قعده	ہفتہ	۹ فروری
، ذی الحجه	سموار	۱۱ مارچ

۱۱۰۔ بعثت عینیہ زین حصن بطرف بتی تیم  
اپریل مئی ۶۳۰ھ (مطابق محرم ۹ھ)

۱۱۱۔ بعثت صحاکہ زین بطرف بتی کلب  
بعثت علیہم زین فوز بطرف جدشہ  
جولائی جولائی ۶۳۰ھ (مطابق ربیع الاول ۹ھ)

۱۱۲۔ بعثت حضرت علیؓ بطرف قلس  
بعثت علیکاشہ زین حصن بطرف الجاب  
جولائی اگست ۶۳۰ھ (مطابق ۹ھ)

۱۱۳۔ کعب بن نہیر مشہور شاعرہ  
اسلام لانا اور مشہور قصیدہ بُودہ  
جولائی اگست ۶۳۰ھ (مطابق ربیع الثانی ۹ھ)

کا پیش کرتا۔ آنحضرتؐ کی ایک ماہ کیلئے خلوت تشیتی۔

جولائی اگست ۶۳۰ھ (مطابق ربیع الثانی ۹ھ)

۱۱۴۔ غزوہ توبک (غزوہ موتکے بعد روم اور ایمان کے خلاف جنگ کا پہلا قدم)  
سرتیہ خالدؓ بطرف اکیدہ از مقام توبک۔ وفات عبداللہؓ ذی الحجاجین توبک میں۔

- اکتوبر نومبر ۶۳۰ھ (مطابق رجب ۹ھ)
- ۱۱۵۔ ہر قل کے نام دوسرا خط از تبوک - اکتوبر نومبر ۶۳۰ھ (مطابق رجب ۹ھ)
- ۱۱۶۔ فتنہ میں فقین اور مسیح پسر کا انہدام - دسمبر ۶۳۰ھ، جنوری ۶۳۱ھ (مطابق رمضان ۹ھ)
- ۱۱۷۔ مقاطعہ اور معاقی کعب بن مالک - قصہ لعان اور واقعہ عوییر - قبیلہ بن شعیف کا مسلمان ہوتا - لات کے بُت کا انہدام - دسمبر ۶۳۰ھ، جنوری ۶۳۱ھ (مطابق رمضان ۹ھ)
- ۱۱۸۔ رئیس المذاقین عبداللہ بن ابی بی سلوک کی موت اور آنحضرتؐ کا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور فرضیت حج - فروری مارچ ۶۳۱ھ (مطابق ذی قعده ۹ھ)
- ۱۱۹۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیقؑ کی قیادت میں مسلمانوں کا پہلا حج - مارچ ۶۳۱ھ (مطابق ذوالحجہ ۹ھ)

## شہر (ہجرت نبیؐ کا دسوال سال)

یکم محرم	منگل	۶۳۱ء	اریل میں
۰ صفر	جمعرات	۹ مئی	۰
۰ ربیع الاول	جمعہ	۷ جون	۰
۰ ربیع الثانی	اتوار	۷ جولائی	۰
۰ جمادی الاول	سومول	۵ اگست	۰
۰ جمادی الثانی	بعد	۳ ستمبر	۰
۰ رجب	جمعرات	۳ اکتوبر	۰
۰ شعبان	سقفة	۲۰ نومبر	۰
۰ رمضان	اتوار	یکم دسمبر	۰
۰ شوال	منگل	۲۰ دسمبر	۰
۰ ذی قعده	بعد	۲۹ جنوری ۶۳۲ء	۰
۰ ذی الحجه	جمعہ	۲۸ فروری	۰

حضرت علیؓ ۱۲۰ سال زندہ رہے اور انھیؒ کا انتقال ۶۰ سال کی عمر میں ہو گا۔

دسمبر ۶۳۱ء (مطابق رمضان شہر)

۱۲۵ - وفات حضرت ابو یمین بن رسول اللہ اور کسوق شمس اور فرمان بھری کہ "خدا کی قسم میرا یہ بیانی ہے "وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَّبِيٌّ" - ۲۸ جنوری ۶۳۲ء (مطابق ۲۹ شوال شہر)

۱۷۶ - حجۃ الوداع - ۸، ۶۷ مارچ ۱۹۳۲ء (مطابق ۱۴ رجب ۱۴۰۱ھ) ذی الحجه شامہ

۱۷۷ - آنحضرتؐ کے خطبات حجۃ الوداع جو امن عالم کا دامی چارٹر ہیں۔ آیت **الیوْمَ أَكَمَّتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ** کا نزول اور ایک یہودی کا تاثر۔ اس آیت کے بعد کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا (در اصل ختم نبوت تکمیل دین ہی کا دوسرا نام ہے)

۸، ۶۷ مارچ ۱۹۳۲ء (مطابق ۱۴ رجب ۱۴۰۱ھ) ذی الحجه شامہ

۱۷۸ - خطبہ عنیرخ اور ارشاد بنوی "من کنت مولاہ فعلی مولاہ" اور اس کا پس منظر۔ ۱۵، مارچ ۱۹۳۲ء (مطابق ۱۴ رجب ۱۴۰۱ھ) ذی الحجه شامہ

۱۷۹ - و قد اہل بحران سے گفتگو اور فرمائی بنوی "انَّ عَيْسَىٰ قَدَّاْتُ عَلَيْهِ  
الْفَتَاءِ" حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ گفتگو کے بعد دعوت مبارہ کا واقعہ۔

۲۱، مارچ ۱۹۳۲ء (مطابق ۲۲ ربیع دوم ۱۴۰۱ھ) ذی الحجه شامہ

اللہ (ہجرت نبویؐ کا گیارہوائی سال)

۱۳۰۔ و قد نجت از بین۔ یہ آخری و قد  
تحاجے آنحضرتؐ نے شرف باریانی بخشنا  
ماچ اپریل ۶۴۳۲ م (مطابق ۱۹ صفر ۱۴۰۱ھ)  
۱۳۱۔ جنت البقیع میں مدفن صاحبہ دُ  
کیلے آنحضرتؐ کی آخری دعا نیز احمد  
میں جا کر شہدائے احمد کیلئے دعا۔

ماچ اپریل ۶۴۳۲ م (مطابق ۱۹ صفر ۱۴۰۱ھ)  
۱۳۲۔ آنحضرتؐ کے مرض الموت کا آغاز  
۱۴ مئی ۶۴۳۲ م (مطابق ۱۹ صفر ۱۴۰۱ھ)  
۱۳۳۔ سرتیہ اسماء بنی زید۔ آنحضرتؐ  
کی زندگی کا آخری سریہ حبس کی روشنی  
حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے

یکم محرم	اتوار	۶۴۳۲ م اپریل
۰ صفر	مشکل	۶۴۳۲ م اپریل
۰ بدھ	بدھ	۶۴۳۲ مئی
۰ ربیع الاول	جمع	۶۴۳۲ م جون
۰ جمادی الاول	ہفتہ	۶۴۳۲ م جولائی
۰ جمادی الثانی	سومول	۶۴۳۲ م اگست
۰ ربیع بیان	مشکل	۶۴۳۲ م ستمبر
۰ شعبان	جمعرات	۶۴۳۲ م اکتوبر
۰ رمضان	جمعہ	۶۴۳۲ م نومبر
۰ شوال	اتوار	۶۴۳۲ م دسمبر
۰ ذی قعده	سودوار	۶۴۳۲ م جنوری
۰ ذی الحجه	بدھ	۶۴۳۲ م فروری

ابتدائی یام میں ہوئی۔ ۲۲ مئی ۶۴۳۲ م (مطابق آخر صفر ۱۴۰۱ھ)

۱۳۴۔ واقعہ قطاس۔ ۲۲ یا ۲۳ مئی ۶۴۳۲ م (مطابق ۲۵، ۲۶، ۲۷ صفر ۱۴۰۱ھ)

۱۳۵۔ بیدی کے آخری یام میں آنحضرتؐ کا حضرت ابو بکر رضی کو اپنی جگہ امام الصلوٰۃ متز  
فزا۔ آنحضرتؐ کا فرمان کہ حضرت ابو بکرؓ کی کھڑکی کے علاوہ سب کھڑکیاں بند کر دو۔ نیز

فریاکر میں ۲ ارادہ کیا تھا کہ ابو بکرؓ کی نسبت خلافت کی وسیت لکھ دوں۔ مگر پھر خدا اور مومنوں پر چھوڑ دیا۔ قتل ازوقات آنحضرتؐ کا مسجد نبوی میں آخری خطاب۔ (وقات صحیح کا اعلان اور انصار کے لئے وسیت) عالم زرع سے قتل کی حدیث۔

**لَعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُوْدَ وَالنَّصَارَى إِنْخَذُوا قَبُورَ أَبْنَيْلِهِمْ مَسَاجِدَ**

(۱۴۹۷ء میں ۲۲ مطابق ۲۵ صفر تا ۲۶ میں ۲۲ رجیع الاول ۱۴۹۷ء)

۱۴۹۷ء۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک۔  
 ۱۴۹۷ء میں ۲۲ (از روئے تجین پر) فیض محمد شید اللہ را بخشی یونیورسٹی  
 رجیع الاول ۱۴۹۷ء مطابق ۲۶ میں ۲۲ (رجیع الاول ۱۴۹۷ء)

صحابہ رسولؐ کا غم و اندوہ۔ شاعر تلبیؒ حضرت حسان بن ثابت کا دردناک مرغیہ:-

كُنْتَ السَّوَاوِلَتَاظِرِي  
 مَنْ شَاءَ يَعْدَكَ فَلَيْمُتْ  
 فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَادِرُ

(دیوان حسان بن ثابت الانصاری دارالایروت للطباعة والنشر ص ۹۳)

لے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ کم رجیع الاول ۱۴۹۷ء میں تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی متوازی یعنی تاریخ ۱۴۹۷ء میں ۲۲ نکتی ہے (رسول رحمت ناصر غلام علی ایڈن سٹرلا بھور میں ۱۵۳) مگر پروفیسر محمد شید اللہ صاحب کے نزدیک علم وہست کے حساب کی جو دو سے صفر ۱۴۹۷ء میں ۲۲ کا تھا اس لئے کم رجیع الاول کو ششی تاریخ نیشنی طور پر ۲۲ میں ہتی ہے۔ (بجگ کراچی ۲۸ ستمبر ۱۹۵۸ء ص ۷)

یعنی تو میری آنکھ کی پتلی تھامیں تو تیری موت سے انداز ہو گیا ہوں۔ اب بعد اس کے جو چاہے مرے۔ مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔

حضرت عمرؑ کا نیام سے تکوار نکال کر کہنا کہ اگر کوئی شخص یہ کے گا کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خطبہ اور آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ<sup>۱۳۵</sup> (آل عمران: ۲۸) کی حادث اور اسلام میں اولین اجتماع امت وفات سعی ناصری پر۔ سفیدہ، بنو ساعدة میں انتخاب خلافت اور حضرت ابو بکرؓ کی ابتدائی بیت۔ بعد ازاں مسجد نبویؐ میں بیت عام۔ آخر پرسنل ملی اللہ علیہ وسلم کا عسل و عین۔ ویسیت نبویؐ کہ یہرے جنازہ میں صرف درود شریف پڑھنا۔ ارشاد علیؐ کہ انحصر حیات و وصال میں تمارے امام ہیں۔ اس لئے جنازہ کے وقت کوئی اور امام نہ ہو گا۔ ویسیت نبویؐ اور ارشاد علیؐ کے میں مطابق جنازہ اور ۶۳۲ھ کو جمرو عائشہ صدیقۃؓ میں تذفین۔ اور آفتتاب نبوت کا دوسرا جمان میں طلوع۔

گندب خضری کی تیری کا ایمان افروز واقعہ جو آخر پرسنل کے زندہ نبی ہونے کا بھی نشان ہے۔

يَارَبِّ صَلِيلَ عَلَى تَبَيَّنَ دَائِيمًا  
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْنَتِ ثَابٍ

## ماخذ

### (B I B L I O G R A P H Y)

- (مکہ مسٹر پر اصحاب الفیل کی یورش) مروج الذہب للمسعودی جلد ۲ ص ۲۸۰ مطبوعہ مصری ۱۹۶۳ء۔
- تاریخ ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نائج الفہام فی تقویم العرب قبل الاسلام ودنی تحقیقین مولانا النبوی دعوہ علیہ الصلوٰۃ والسلام - طبع اول ۱۸۵۸ء یورس طبع دوم (عربی ایڈیشن) ۱۸۸۲ء از محمد حمی باشا فلکی مصری - (ولادت ۱۸۱۵ء وفات ۱۸۸۵ء)۔ ۲- سیرت ابنی جدرا ص ۲۷۱ مولف علامہ شیخ نهانی ناشر قرآن لینڈ لاہور۔ ۳- علم التاریخ ص ۲۵ (H.A.R.GIBB) ناشردار الکتب البتائی بیروت ۱۹۸۱ء۔
- محاضرات جدرا صفحہ ۲۲ تالیف الشیخ محمد خنزی بک ناشردار العلم للهابین بیروت ۱۹۸۰ء۔ ۴- تاریخ قرآن تالیف ابو عبد اللہ الزنجانی الصفا طبع اطہی العربي فی دمشق مطبوعہ بجنتة التالیف والترجمہ القاهرہ ۱۳۵۳ھ
- ۵- (خاتمه حرب فبار) مروج الذہب للمسعودی جلد ۲ ص ۲۷۶
- ۶- (حلف المنقول) مروج الذہب للمسعودی جلد ۲ ص ۲۷۶
- (ب) - (ولادت حضرت علیؑ) مطالب اصول فی مناقب آں رسول مولفہ محمد بن ابی طلحہ شافعی ۱۹۵۸ء۔  
۷- (حوالہ سوانح عمری حضرت علیؑ بن ابی طالب ص ۲۷۷ مولفہ حضرت ملا موسا مولانا عبد اللہ بیل ناشر کتاب علوم مشرق کشمیر بزار لاہور ۱۹۳۳ء۔
- (نہود قرآن کا آغاز) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۷۱ ازالی المستی مطبوعہ ۱۹۷۳ء  
۸- زرقانی شرح مواہب المددنیہ جلد اول ص ۲۰۷ بحوالہ تفسیر کبیر جلد دوم ص ۳۹۳  
(حضرت نیشنٹ المتنی الثاني)
- ۹- (پہلی بھرت جبہ) طبقات ابن سعد "سیرت خاتم النبیین" جدرا ص ۱۹۳  
(مولفہ حضرت مرزا شیراحمر)
- (محاصرہ شعب ابی طالب کا پسلادون) زاد العاد جلد ۲ الابن قیم "سیرت خاتم النبیین" جدرا ص ۲۸
- (وفات حضرت خدیجہ) تاریخ یعقوبی جلد ۲ ص ۳۵ تالیف احمد بن ابی یعقوب

- ٩-(كما حضرت عائشة وسورة) سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٣١
- ١٠-(سفر طائف) ملقات ابن سعد- سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٣٩
- ١١-(دوسرى ملاقات الى شيش) ابن هشام- سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٩٦
- ١٢-(صران) سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٧٢
- ١٣-(اسراء) سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٧٢
- ١٤-(بيت عتبة ثانية) اسد الغاب- سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٢٩٨
- ١٥-(فيصله دار الندوة) تاريخ خيس جلد ١ ص ٣٢٢ تأليف الامام الشیخ محمد بن الحسن الدیارکنی ناشر موسسه شعبان بیروت- تحقيق مقاله دوست محمد شاهد مطبوعه اخبار لاہور ۲۳ مارچ ۱۹۷۵ء
- ١٦-(ب) (اجرت مدینہ ازغار ثور) اینٹا
- ١٧-(دور دبا) سيرت خاتم النبئين جلد ٢ ص ٢- التوفیقات الالہامیہ ص ٦٣ تماریز باشاصری العبد الالہیہ بولاق مصر ۱۸۹۳ھ مطابق ۱۸۷۵ء حاضرات تاریخ الامام الالہامیہ جلد ١ ص ٨٣ تقویٰ منا شمسی ص ٨ از محب الدین الحلیب المحدث السفیری قاهرہ ۱۸۶۱ھ- تاریخ یعقوبی جلد ٢ ص ٣٢ تأليف احمد بن ابی یعقوب مطبوعہ بیروت ۱۹۸۰ء
- ١٨-(بنیاد مسجد قبا) تقویٰ منا شمسی ص ٢٣-٢٣
- ١٩-(اسلام میں آنحضرت کا سلا خطبہ جمعہ) (ترجمہ) ابن هشام جلد ١ ص ٥٣٣ تاریخ غلام علی اینڈ سنز- زاد العالد لابن القیم جوزی جلد ١ ص ١٤ مطبع میمن مصر- الیرہ الحلیہ جلد ٢ ص ٣٢٢ تأليف علی بن برہان الدین الحلی مطبوعہ بیروت ۱۹۸۰ء
- ٢٠-(ظہرو عصر اور عشاء میں چار رکھتوں کی فرضیت) سيرت محمدی ترجمہ مواہب اللدنی للسلانی جلد ١ ص ٢٩٩
- ٢١-(آہت اجازت جمار بالسیف کا نزول) زرقانی- التوفیقات الالہامیہ- سيرت خاتم النبئين جلد ١ ص ٩٥
- ٢٢-(سریہ ابو عینیدہ) سيرت خاتم النبئين جلد ٢ ص ٩٩
- ٢٣-(غزوہ رضوان) سيرت خاتم النبئين جلد ٢ ص ١٠٢
- ٢٤-(تحویل قبلہ) تاریخ العقبی جلد ٢ ص ٣٢

- ۴۷
- ۲۳-(قیام رمضان کی فرمیت) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۲۳
- ۲۴-(جگ بد) ابن ہشام۔ ابن سعد سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۲۳۔ ۳۲۴
- ۲۵-(اسلام میں پہلی عید الفطر) التوفیقات الاسلامیہ ص ۳۲۳
- ۲۶-(رخصتہ حضرت عائشہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۳۷
- ۲۷-(غزوہ قرقہ الکدو و قمیقاع) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۷۸۔ سیرت البیهی از شیعی نہایی جلد ۱ ص ۳۲۴
- ۲۸-(غزوہ سویل) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۷۹
- ۲۹-(حضرت فاطمہ کانکاح) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۸۲
- ۳۰-(اسلام میں پہلی عید الاضحی) التوفیقات الاسلامیہ ص ۳۲۴
- ۳۱-(غزوہ ذی امر) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۹۳
- ۳۲-(حضرت ام کلوم کانکاح) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۹۴
- ۳۳-(غزوہ بحران) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۹۶
- ۳۴-(غزوہ بنی سلیم) اینا
- ۳۵-(غزوہ زید بن حارثہ بطرف قرہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۹۷
- ۳۶-(قتل کعب بن اشرف) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۲۹۹
- ۳۷-(شادی حضرت حفظہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۰۳
- ۳۸-(ولادت حضرت امام حسن) اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ جلد ۸ ص ۲۵۰ شائع کردہ بخطاب یونیورسٹی لاہور
- ۳۹-(غزوہ احد) التوفیقات الاسلامیہ۔ سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۰۰
- ۴۰-(بن لیمان کی شرارت اور قتل سنیان) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۰۱
- ۴۱-(کفار کی غداری۔ واقعہ رجیع۔ واقعہ بزم معونة) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۰۷
- ۴۲-(خراج بن نصیر) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۰۸
- ۴۳-(ولادت حضرت امام حسین) اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ جلد ۸ ص ۲۵۰ ناشر بخطاب یونیورسٹی لاہور۔ سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۸۳

- ۳۵-(زوج حضرت ام سلہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۸۵
- ۳۶-(غزوہ بدر الموعد) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۸۵
- ۳۷-غزوہ دومنہ الجنل) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۳۹۹
- ۳۸-(مدینہ میں خوف قرار اور صلوٰۃ خوف) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۴۰۱
- ۳۹-(غزوہ بنی مطلق اور واقعہ اکف) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۴۲۲
- ۴۰-(غزوہ خندق) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۴۳۷
- ۴۱-(غزوہ بنو قریظہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۲ ص ۴۸۰
- ۴۲-(سریہ قرطا) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۳
- ۴۳-(ثماں بن اہل رئیس یامہ کا اسلام لانا) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۳
- ۴۴-(غزوہ عکاشہ بن عصّن) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۸
- ۴۵-(سریہ محمد مسلمہ بطرف ذوالقصہ)
- سریہ زید بن حارثہ بطرف بنی سلیم) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۰
- ۴۶-(سریہ زید بن حارثہ بطرف میں)
- ۴۷-(ابوالحاصل کا قبول اسلام غزوہ بنو نیمان) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۳-۴۲
- ۴۸-(سریہ زید بن حارثہ برائے طرف) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۶
- ۴۹-(سریہ زید بن حارثہ بطرف حکمی) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۶
- ۵۰-(سریہ زید بن حارثہ بطرف وادی القری) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۶
- ۵۱-(سریہ زید بن حارثہ بطرف ذوالقصہ)
- ۵۲-(سریہ دومنہ الجنل) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۴۹
- ۵۳-(سریہ علی بطرف ذک) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۵۱
- ۵۴-(ابورافع یوسوٰی کا قتل) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۵۷
- ۵۵-(آنحضرت کی دعائے استقاء اور مدینہ میں بارش) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۸۳
- ۵۶-(خود شاہ ایران کا اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل)

- ۷۶۔ (آنحضرت کے قتل کی سازش۔ سریہ عمروں امیر) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۱۰۵
- ۷۷۔ (قبائل علی و عربیہ کی غدری اور اسکا ہولناک انجام) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۱۰۵
- ۷۸۔ (بیعت رضوان۔ صلح حدبیہ) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۱۰۵
- ۷۹۔ (مجھہ بخیر الماء) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۱۰۵
- ۸۰۔ (آنحضرت کے خطوط ہرقلم، کسری، مقویں، مصر، مجاشی، ملیس غسان اور رئیس یمامہ کے نام) سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۲۲۳
- ۸۱۔ تا ۷۳۳ یہ سب واقعات حضرت مرازا بشیر احمد صاحبؒ کی رقم فرمودہ "فہرست مضامین سیرت خاتم النبیین" مطبوع الفضل ۲۲۰ روپی ۱۹۵۵ء سے مخذولیں۔
- ۸۲۔ (بیٹھ علی بطرف میکن) فہرست مضامین سیرت خاتم النبیین مطبوع الفضل از حضرت مرازا بشیر احمدؒ حضرت جبرائیل کی اطلاع کہ حضرت عیینی ۲۰۰ سال زندہ رہے اور آنحضرتؒ کا انتقال ۲۰۰ کی عمر میں ہو گا۔
- زرقانی شرح مواہب اللہیۃ جلد ۱ ص ۳۵ از الامام العلامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی ناشر مطبوع الاذہریۃ المسنیۃ۔ طبع اول ۲۲۵ تھا کنز الدعمال جلد ۳ ص ۷۷ از علامہ علی المحتق مطبوع حلب ۱۹۷۴ء
- ۸۳۔ (دقائق حضرت ابراہیم بن رسول اللہ و کسوف شب) فہرست مضامین سیرت خاتم النبیین مطبوع الفضل از حضرت مرازا بشیر احمدؒ "رحمۃ للحالمین" جلد ۲ ص ۱۹۸۸ء قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ رسالہ نقش "رسول نبیر" لاہور۔ جلد ۲ ص ۷۷ (فرمان نبوی کہ میرا بیٹا ابراہیم بخدا نبی ہے) "الفتاوی العلیہ" ص ۶۷ اعلامہ ابن حجر هشی مطبوعہ صرف ۱۹۷۰ء
- ۸۴۔ (جنتۃ الوداع) ۱۔ بخاری کتاب المغازی۔ ۲۔ التویفات الالہامیہ (محمد عثماں حصری سیرت النبیؐ از شیلی نعمانی جلد ۲ ص ۱۹۸۵ء) تشریان قرآن لیٹرڈ لاہور۔
- ۸۵۔ (آنحضرت کے خطبات جنتۃ الوداع) بخاری کتاب الجائز۔ ابن حشام وغیرہ۔ سیرت النبیؐ از شیلی نعمانی جلد ۲ ص ۱۹۸۵ء
- (آیت الیومِ اکملت لکم دینکُمْ)  
اللائمه کے نزول پر یہودی کا تاثر

در منشور للسيوطى جلد ۲ ص ۲۵۸ م ۱۹۷۸ (دوشنبه غدیر خم اور اس کا پس سنظر) بخاری شرح کمانی جلد ۱۹ ص ۴۵ مطبوعہ مصر

طبقات ابن سعد (ترجمہ) جلد ۲ ص ۳۲۱ م ۱۹۷۸ (طبقات ابن سعد اپنے نظر) بخاری شرح کمانی جلد ۱۹ ص ۴۵ مطبوعہ مصر

۴۹۔ (واقفہ مبارکہ اور اعلان وفات) اسباب البزول ص ۳۵۳ از علی ابن احمد الواحدی مطبوعہ مصر۔ بخاری۔ در منشور للسيوطى جلد ۲ ص ۳۷ تا ۳۰۰ ناشردار المعرفہ للطباعة والنشر بیروت لبنان۔ چودہ ستارے ص ۱۸۳ از سید جعفر الحسن کراروی۔

(وفد نجاح از یمن) فهرست مصائبین سیرت خاتم النبیین از حضرت مرتضیٰ شیرازی مطبوعہ الفضل ۲۰-۲۲ فروری ۱۹۵۵ء۔

۵۰۔ (جنت الیحیٰ میں مدفن صحابہ اور شدائے احمد کے لئے دعا) "فهرست مصائبین سیرت خاتم النبیین" مطبوعہ الفضل ۲۰-۲۲ فروری ۱۹۵۵ء۔

۵۱۔ فهرست مصائبین سیرت خاتم النبیین

(آخرت کا مرض الموت) طبقات ابن سعد (ترجمہ) جلد ۲ ص ۳۲۱ ناشر نفسی اکیڈمی کراچی۔

۵۲۔ (حضرت ابو بکرؓ کا آخرت کی طرف سے امام اصلوۃ مقرر ہوتا اور آپؐ کی نسبت و میت) بخاری کتاب الاحکام باب الاختلاف و مسلم باب من فضائل ابی بکرؓ سیرت خاتم النبیین جلد ۳ ص ۵۲۸

۵۳۔ (آخرت کے وصال کی معین تاریخ)

سیرت النبیؐ از شیلی نعمانی جلد ۲ ص ۲۲۱ م ۱۹۵۸ء۔ اخبار بیگ کراچی ۲۸ ستمبر ۱۹۵۸ء (تحقیقی مقالہ پروفیسر شیداد اللہ)

(حضرت حسان بن ثابت کا مرغیہ) دیوان حسان بن ثابت الانصاری ص ۴۱ داریبوت للطباعة والنشر ۱۹۸۳ء

(حضرت عزیز کا تمکار بے نیام کرنا اور حضرت ابو بکرؓ کا خطاب وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ... إِنَّمَا) بخاری۔

(حضرت ابو بکرؓ کی بیت) بخاری۔ مشجر الاولیاء ص ۲۲۵-۲۲۳ از سید محمد نور بخش القستانی مطبوعہ فیاض پرنٹنگ پرس لاهور۔

(آخرت کا ارشاد کہ میرے جنازہ میں صرف درود شریف پڑھا جائے)

"الروض الانف في تفسير ما استعمل عليه احاديث السيدة"

النبویہ لابن هشام" م ۲۷۳ تایف الامام الحدیث عبدالرحمٰن بن احمد الشعی  
اسبل المعنی ۱۹۷۳ء۔ ناشر اکبریٰ الفاروقیہ مлан ۱۹۷۶ء

(حضرت علیؑ کا ارشاد کہ جنازہ کے وقت کوئی امام نہ ہوگا) ہوام اسکم حیا  
الحساں الکبریٰ للیسوی جلد ۲ م ۲۷۲ ناشر المکتبہ النبویہ  
میتا

ا) سویں لاکل پور۔

(آخرت کے رومنہ مبارک کا نقشہ۔ حضرات شیخین کے مزار اور گنبد خضری کی نظر کے  
منظراً منظر کا ایمان افروز واقعہ)

الواقعۃ باخبر دار المصطفیٰ للمسعودی جلد ۱ م ۵۵۶ تا م ۵۵۶، ناشر احیاء تراث  
لبی بیوت طبع چارم ۱۹۸۷ء

- جذب القلوب الی دوار الجوب تاریخ مدینہ م ۲۹۴۷ء۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی  
رمیثہ پیشک کمپنی ہڈ روڈ کراچی۔

وَأَخْرَدْغَوْثَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝

اک جلوے میں آنا فاماً  
بھر دیا عالم کر دیے رہے  
اُستردھن پورب پھیم  
صلی اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اول و آخر شارع و خاتم  
صلی اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(کلام طاہر)